

اگر آپ نے ابراہیمؑ کو پہچان لیا ہے



منظاہر علم ^{آئینہ}

بانی:- فقیہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین نور اللہ مرقدا

منظاہر علم وقف کے مایہ ناز فرزند، وقف علی اللہ کے حامی، بزم اشرف کے آخری چشم و چراغ
محی السنۃ حضرت مولانا شاہ **ابراہیم الحق** نور اللہ مرقدا کی اتباع سنت سے بھرپور
حیات طیبہ پر مشتمل ایک حسین و دلاویز ممتاز دستاویز



حضرت مولانا محمد سعید ری حفظہ اللہ

Rs.20

دفتر آئینہ مظاہر علم (وقف) علوم سہا نیو

کیا آپ جانتے ہیں؟

آل انڈیا تنظیم تعلیم و دعوت کے اغراض و مقاصد

- ☆ ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث نبوی کی ترویج و اشاعت
- ☆ اہل سنت والجماعت کی فکر کی بنیاد پر صحیح اسلامی عقائد کا فروغ
- ☆ جدید تقاضوں کے پیش نظر دینی مدارس، علمی مراکز اور عصری مکاتب کا قیام نیز ضرورت مند علاقوں میں مساجد کی تعمیر کا انتظام
- ☆ مسلمانوں میں اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کی تعلیم و تربیت اور اصلاح معاشرہ کے لئے جدوجہد
- ☆ ضرورت مند علماء، نادار طلباء کی کفالت اور ان کے لئے وظائف کا انتظام نیز غریب و بے سہارا لڑکیوں کی شادی کا انتظام اور شدید ضرورت مندوں کے گھروں میں پانی کا انتظام
- ☆ یتیموں، بیواؤں اور مختلف آفات سے متاثر لوگوں کی اخلاقی و مالی مدد
- ☆ منصف مزاج برادران وطن سے رابطہ اور ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی کوشش

برادران اسلام سے مخلصانہ اپیل

جو اہل خیر حضرات تنظیم کے ذریعہ غرباء و مساکین کی خدمت کرنا چاہیں وہ اصحاب اس تنظیم کے ذریعہ ان مقدس فرائض کو انجام دے سکتے ہیں۔
ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی امانتوں کو پوری احتیاط کے ساتھ صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے گا۔

رابطہ کا پتہ

مولانا عبد الآخر مظاہری

مکان نمبر 576 گلی نمبر 39 ذاکر نگر، اوکھلا، نئی دہلی۔ 25 انڈیا

0121-2448007 (آفس) 011-55653869

(گھر) 9837141039 - 9810750051

مسکت الشیخہ

مظاہر علوم کا

ارباب الایمان

اعلیٰ علیہ السلام

آئینہ مظاہر علوم

جلد نمبر ۱۲ / ۱۵ جمادی الاولیٰ تار جب ۱۴۲۶ھ مطابق جولائی تا ستمبر شمارہ نمبر ۱۲ / ۱۱

لکھت مولانا محمد سعید مدنی حفظہ اللہ
ناظم و مقرر مظاہر علوم سہانپور

مظاہر علوم وقف کے لیے نادر و نایاب کتب اشرف کے استوفیہ و تحفہ کی غرض سے
لکھت مولانا شاہ ابرار الحق نور اللہ مدنی کی ایک نادر زندگی اور اتباع سنت سے
بھر پور حیات طیبہ پر ایک حسین و دلآویز نمٹاؤ دستاویز

محمد ریاض الجبین
ناظر و مدیر مظاہر علوم

دفتر آئینہ مظاہر علوم سہانپور

اس شمارہ کے کلیں جز کو بلا حوالہ شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے



حضرت مولانا محمد سعید دی حفظہ اللہ



محمد ریاض الحسن



ناصر الدین مظاہر



کمپوزنگ محمد عارف مظاہر
مطبع فاروقی پرنٹنگ پریس دہلی نمبر ۶

سالانہ ۱۲۰ روپے

فی شمارہ ۱۰ روپے

سارک ممالک کے لئے ۳۰۰ روپے
دیگر ممالک کے لئے ۲۵ امریکی ڈالر

اس شمارہ کی قیمت



اگر میں حال دل کہہ دوں تو تم بھی ارشاد کر دو
 بڑی ہی دکھ بھری ہے زندگی کئی درستان میری



اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ

کَلَامُ اللَّهِ وَرَبِّهِ
 وَرَبِّهِ وَرَبِّهِ
 وَرَبِّهِ وَرَبِّهِ
 وَرَبِّهِ وَرَبِّهِ

4279 39400

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

تواریخ

۷

پیغام

مولانا محمد رفیع

۱۳

پیغام

مولانا محمد اختر

۱۴

پیغام

مفتی حمید احمد

۱۵

پیغام

مولانا محمد عارف

۱۶

پیغام

مولانا محمد عبد اللہ

۱۷

پیغام

مولانا محمد ارشد علی

۱۸

پیغام

مولانا نسیم احمد

۱۹

پیغام

مفتی شمس الدین

۲۰

پیغام

مولانا محمد رابع

۲۱

پیغام

مولانا فضل احمد

۲۳

پیغام

مولانا محمد زکریا

۲۴

پیغام

مولانا آسیا علی

۲۵

پیغام

مولانا محمد صدیقی

۲۶

پیغام

مفتی محمد عبد اللہ

۲۷

پیغام

مولانا حمید علی

۲۸

پیغام

مولانا محمد مصطفیٰ

۲۹

- | | | |
|----|-------------------|------------------------------|
| ۳۰ | سیدہ زینب | پیغام |
| ۳۱ | سیدہ عائشہ | پیغام |
| ۳۳ | سیدہ خدیجہ | مولانا شاہ ابرار الحق حقی |
| ۳۵ | سیدہ خدیجہ | ذکر ابرار |
| ۳۸ | مولانا حامد | زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے |
| ۴۱ | سیدہ خدیجہ | شفقتیں ان کی یاد رہیں گی |
| ۴۴ | مولانا سرور الحق | روحانی معالج |
| ۴۶ | سیدہ زینب | وہی چراغ بجھا..... |
| ۵۴ | مولانا حمزہ | کچھ یادیں کچھ باتیں |
| ۵۶ | مولانا حمزہ | کچھ یادیں کچھ تاثرات |
| ۶۱ | مولانا عائشہ | غم کے آنسو |
| ۶۵ | سیدہ سلیمان | ان کی خوبیاں بیشمار |
| ۶۸ | مولانا محمد ثانی | خوبیوں کا مجموعہ |
| ۶۹ | سیدہ محمد رشید | اور بڑھی تار کی |
| ۷۳ | مولانا اسلام الحق | نگہ بلند سخن دلنواز جان کسوز |
| ۷۵ | مولانا محمد زکریا | جو میں نے دیکھا |

شاہ ابرار الحق مظاہری	تبرکات	۷۹
اصلاحی طریق	(صاحب دیر)	۸۴
آہ! حضرت ہردوئی	حافظ کاغذی	۹۰
محی السنہ اوفقیہ الاسلام	(صاحب دیر)	۹۲
معراج اپنی اپنی	مولانا سعیدی	۹۸
ہردوئی تک	شیخ محمد تقی	۱۰۵
آہ! وہ ہستی.....	مولانا مراد علی	۱۱۲
فصل گل خوشید شد اندر چمن	شیخ نذیر حسین	۱۱۵
مادہ ہائے تاریخ وصال	(ادارہ)	۱۱۷
اے برار الحق چہ احساں کردہ	مولانا محمد اختر	۱۲۰
کاراں کے سر سمیر کا دریاں جانا سا	مولانا اسماعیل	۱۲۱
نذرانہ عقیدت	مفتی شعیب	۱۲۵
مرثیہ مولانا ابرار الحق	قادیانہ	۱۲۶
تبرکات	نارائین	۱۲۹
خلفاء و مجازین	مولانا محمد غلام	۱۳۲
تاریخ وفات	مولانا محمد اعجاز	۷۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِخَارِہ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

الْقَارِہ

جائے کہ بود آں دلتاں با دوستاں در بوستاں

شد زاغ و کرگس را مکاں، شد مرغ و ماہی را وطن

۱۷ جون ۲۰۰۵ء کو جس وقت عالم اسلام کا سب سے ممتاز عالم دین اور قوم و ملت کا عظیم انسان دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر رہا تھا، اس وقت آئینہ مظاہر علوم کا تازہ شمارہ طباعت کے لئے پریس جا چکا تھا، اس لئے ہم اپنے قارئین کی خدمت میں وقت کے سب سے بڑے محسن کے بارے میں کوئی مضمون پیش نہ کر سکے۔

دنیا رفتہ رفتہ ارباب علم و تقویٰ سے خالی ہوتی جا رہی ہے، ماضی قریب میں ہمارے ہاتھوں سے رہا سہا ذخیرہ بھی جاتا رہا اور ہم تہی دست ہو گئے جس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے، وقت مقررہ پر سبھی کو جانا ہے باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس پر کبھی فنایت طاری نہیں ہو سکتی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔

انبیائے کرام ہوں یا اولیاء عظام ہر شخص کو ایک مقررہ وقت کیلئے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وقت موعود آ جانے پر ہر آنے والے کیلئے جانا یقینی ہے کل نفس ذائقة الموت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، جس سے فرار ناممکن ہے اینما تکنونا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔

حضرت محی السنۃ بھی پچاسی/ستاسی سال کی عمر میں امت کو فیوض و برکات سے مالا مال فرما کر اپنے پروردگار سے جا ملے۔

ذهب الذین یعاش فی اکنافہم بقی الذین حیوتہم لا تنفع
آئینہ مظاہر علوم کے پچھلے شمارہ میں چند گراں قدر شخصیات پر مختصر شذرات سپرد قلم کئے گئے تھے، لیکن کے معلوم تھا کہ اگلا ادارہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہوگا جس کا وجود باجود امت اپنے لئے باعث افتخار اور

بسا غنیمت تصور کرتی تھی، جس کیلئے بزم کون و مکاں کی ہر چیز قربان تھی، جس کی صحبت کو پانے اور نصیحت کو سننے کیلئے دور دور سے عشاق پروانہ واردوڑے چلے آتے تھے، یوں تو یہ حادثہ پوری ملت اسلامیہ کیلئے بڑا خسارہ ہے مگر ان کی مادر علمی مظاہر علوم وقف سہارنپور کیلئے بھی ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔

مدتوں رو یا کریں گے جام و پیانہ تجھے

حضرتؒ کے علوم و معارف..... سلوک و احسان، تزکیہٴ نفوس..... احیاء سنت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی داعیانہ صفات کا سارا زمانہ معترف تھا..... ان کی فیض رساں طبیعت سے شاید ہی کسی کو نقصان ہوا ہو البتہ ان کے عظیم ترین مشن سے ہر کسی کو فائدہ ضرور ہوا..... ایک بڑی تعداد جو جادۂ اعتدال بلکہ زاویہٴ مستقیم سے ہٹ چکی تھی راہ راست پر آگئی..... منکرات کا خاتمہ تو نہیں البتہ اس میں حیرت انگیز کمی واقع ہوئی..... نیکیوں کا چلن عام ہوا..... برائیوں پر روک لگی..... دین کا بول بالا ہوا..... بددین صراط مستقیم پر گامزن ہوئے..... گم کردہ راہوں کو توبہ و استغفار کے مواقع میسر آئے..... طبقہٴ علماء کو مفوضہ امور یاد آئے..... اپنی ذمہ داریوں کا انہیں احساس ہوا..... مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ..... دینی تعلیمات کے لئے قرآنی مکاتب کا اجراء اور دعوت الحق کے پلیٹ فارم سے معروفات کا حکم..... منکرات و فواحش، الحاد و لادینیت اور شیطانی دسیسہ کاریوں کی روک تھام کے لئے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے وضع کردہ اصولوں کو اپنا کر ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔

ہردونی کیا ہے؟

☆ صفہ کے طرز پر سنت نبوی کی ترویج و اشاعت کا ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے! جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی عملی مشق ہوتی ہے۔

☆ مردہ قلوب کو زندگی و تابندگی اور روح کو جلا و تقویت پہنچانے کا ایک عظیم مستشفیٰ ہے! جہاں روح کے مریضوں کا تشفی بخش علاج ہوتا ہے۔

☆ سلسلہ تھانوی کا آخری دار السلطنت ہے! جہاں سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مریدین و متبعین کو اسلامی احکامات اور ہدایات پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

☆ دینی و شرعی باریکیوں، نکات آفرینیوں اور حساس و پیچیدہ مسائل کو سلجھانے کے لئے دارالشرع اور دارالشوریٰ ہے! جہاں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لئے لائحہٴ عمل تیار ہو کر پوری دنیا میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔

☆ واردین و صادرین کیلئے دار الضیف ہے! جہاں سنت نبوی کے مطابق ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔

☆ دور و دراز اور قرب و جوار کے طلبہ اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک شاندار علمی مرکز ہے!

جہاں لوگ دن رات علمی تشنگی بجھانے میں مصروف رہتے ہیں۔

☆ مطالعہ کا ذوق و شوق رکھنے والے طلبہ، اساتذہ، اور عوام و خواص کیلئے باضابطہ دارالکتب اور دارالمطالعہ بھی ہے اتنا کہ مطالعہ کے ذریعہ ذہن و دماغ کو روشنی بخشی جاسکے۔

☆ غیر مستطیع غریب و نادار طلبہ کیلئے باقاعدہ مطبخ بھی ہے جہاں سے ان کو ناشتہ و کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔

☆ پوری دنیا میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے والوں کے لئے ایک عظیم تدریسی مرکز بھی ہے!

☆ جہاں ان کو درس و تدریس کی عملی مشق اور تربیت دی جاتی ہے۔

☆ دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں میں دلچسپی لینے والوں کے لئے مرکز دعوت الحق ہے جس کے راہنما اصول و قوانین اور ضابطہ و آئین باقاعدگی کے ساتھ مرتب ہیں۔

باغ باقی ہے باغباں نہ رہا

اپنے پھولوں کا پاسباں نہ رہا

کارواں تو رہے گا رواں مگر

ہائے وہ میر کارواں نہ رہا

فضلائے مظاہر علوم نے دین کے تقریباً سبھی شعبہ جات میں نمایاں اور ممتاز خدمات انجام دیکر الحمد للہ مادر علمی کے وقار اور اس کی عظمتوں میں چار چاند لگائے ہیں لیکن دعوتی میدان میں بھی اس کے فضلاء کی جو خدمات اور قربانیاں ہیں اس میں مظاہر علوم کو ہمیشہ اپنے فرزندوں پر فخر رہے گا، حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، حضرت مولانا محمد عبید اللہ بلیاوی، حضرت مولانا محمد ہارون کاندھلوی، حضرت مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی، حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری وغیرہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مظاہر علوم سے فراغت، فضیلت اور خوشہ چینی کے بعد دعوتی تحریک میں اسپرٹ پیدا کی اور اس میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے کر مادر علمی کے تقدس میں اضافہ فرمایا۔

ماضی قریب میں عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوئی اور محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نے اس عظیم درسگاہ سے فراغت پا کر اپنی پوری زندگی احیاء سنت اور دعوت و تبلیغ میں صرف فرمادی، اس کیلئے دن کے چین اور رات کے سکون کو خیر باد کہہ دیا۔

ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی

کیا طرفہ تماشہ ہے حسرت کی طبیعت بھی

دین مبین کی حفاظت و اشاعت کی خاطر ان دونوں حضرات نے جو غیر معمولی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کیں ان میں شاید ہی قیامت تک ان کا کوئی ثانی پیدا ہو۔

حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کے مشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ان دونوں حضرات نے جس خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اس سے حضرت حکیم الامتؒ کی روح یقیناً خوش ہوگی، چنانچہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندویؒ نے ایک بار حضرت تھانویؒ کو خواب میں دیکھا تو حضرت تھانویؒ نے ان سے فرمایا کہ ”میرے سلسلہ کے کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ میں تم سے اور مولانا (ابراہیم الحق) سے

خوش ہوں“

(تذکرۃ الصدیق ۵۲۰، جلد ۲)

حضرت محی السنۃؒ سے ان کی مادر علمی کا تعلق کہتے یا حضرتؒ کی روحانی و باطنی کشش کہ ٹھیک اسی روز جس دن مظاہر علوم وقف کا یہ عظیم فرزند ہمیشہ کیلئے اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ حضرت مولانا محمد سعیدی ناظم مظاہر علوم کی قیادت میں ایک قافلہ کشاں کشاں حضرت والاؒ کی خدمت میں ہر دوئی پہنچ کر حضرتؒ کے علوم و معارف سے دیر تک فیضیاب ہوا، حضرتؒ نے مادر علمی سے قلبی تعلق، اپنے استاذ خاص حضرت مفتی سعید احمد اجڑویؒ کی نسبت اور حضرت فقیہ الاسلام مولانا مفتی مظفر حسینؒ سے دیرینہ خصوصی روابط کے باعث اپنے لطف و کرم اور انتہائی اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا، مظاہر علوم وقف کے حالات معلوم کرتے رہے، خوش بخت کاروان مظاہر کو ابتدائے علالت سے تجھیز و تکفین، آخری زیارت اور آئندہ روز تدفین وغیرہ میں بھی شرکت کی سعادت میسر آئی۔

عالم اسلام کا یہ عظیم محسن جو اپنی گونا گوں علمی دینی، عرفانی اور روحانی ضیافتوں سے لوگوں کو زندگی بھر مالا مال کرتا رہا، چلتے چلتے بھی دنیا کو مادر علمی سے اپنی دیرینہ محبت و تعلق کا پیغام دیکر رخصت ہوا، حضرت محی السنۃؒ کی خدمت میں پہنچنے والے مہمانوں میں کاروان مظاہر آخری ”مہمان“ کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

ہماری دانست میں یہ شرف و امتیاز اہل مدارس میں سے صرف مظاہر علوم وقف کے حصہ میں آیا

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

وان كره الاعداء من كل حاسد

حضرت ناظم صاحب مدظلہ کے قلم حقیقت رقم سے اس تاریخی سفر کی تفصیلات آپ آئندہ صفحات میں ”معراج اپنی اپنی“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں گے۔

حضرت محی السنۃ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی شخصیت پر مشتمل یہ شمارہ اگرچہ حضرت کی شایان شان نہیں ہے پھر بھی یہ بحالہ ان شاء اللہ قارئین کے لئے مفید اور نفع بخش ثابت ہوگا۔

☆☆☆

چراغِ لاکھ ہیں لیکن کسی کے اٹھتے ہی

برائے نام بھی محفل میں روشنی نہ رہی

محی السنۃ نمبر..... امتیازات و خصوصیات

آئینہ مظاہر علوم کی طرح ملک و بیرون ملک کے نہ جانے کتنے اخبارات و رسائل حضرت محی السنۃ پر خصوصی نمبرات شائع کریں گے لیکن اس شارے کی بعض خصوصیات اسکو دیگر اخبارات و رسائل سے ممتاز کرتی ہیں مثلاً

☆ یہ قیام شہر حضرت کی مادر علمی سے شائع ہو رہا ہے جو خود حضرت محی السنۃ کیلئے ایک ذمہ مستحق ہے۔

☆ محی السنۃ نمبر کو خوشو ذائد سے پاک اور کمرات سے محفوظ رکھا گیا ہے۔

☆ حضرت محی السنۃ کا پورا تعلیمی زمانہ چونکہ یہیں گزرا ہے اسلئے تعلیمی ریکارڈ بھی شائع کیا جا رہا ہے۔

☆ حضرت محی السنۃ نے مادر علمی سے فراغت کے سال جو امتیازی نمبرات حاصل کئے ان کا ایک چارٹ،

اساتذہ دورہ حدیث شریف کے اساتذہ گرامی اور ممتاز رفقاء درس کے ناموں کو بھی شامل اشاعت کیا گیا ہے۔

☆ ۱۳۷۹ھ میں حضرت محی السنۃ نے اپنی سند حاصل کی تھی، اس کی نقل بھی شائع کی جا رہی ہے، جو دفتر مظاہر علوم

وقف میں موجود ہے جس پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی مدناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسعد اللہ،

محدث کبیر حضرت مولانا منظور احمد خانؒ اور دیگر اعیان علم و تقویٰ کے مبارک دستخط ثبت ہیں۔

☆ حضرت محی السنۃ نے مظاہر علوم کے چار دور نظامت دیکھے اور ہر دور کے ناظم سے برابر خط و کتابت کا سلسلہ

جاری رکھا، برکت کیلئے ہر دور کے ناظم کے نام ارسال کئے گئے مکتوب گرامی کی نقل بھی نذر قارئین کی گئی ہے، جس سے

مادر علمی کے ساتھ حضرت کے دیرینہ تعلق کا پتہ چلتا ہے۔

☆ مظاہر علوم وقف کے ناظم و متولی حضرت مولانا محمد سعیدی مدظلہ کا مضمون ”معراج اپنی اپنی“ بھی شامل اشاعت ہے

جو حضرت کے انتقال پر مال سے چند گھنٹے پہلے زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے تھے، اس مضمون میں حضرت محی السنۃ سے

آخری گفتگو، زندگی کے آخری لمحات، اچانک علالت اور سانحہ ارتحال کی پوری تفصیل نیز جہیز و تکفین کا آنکھوں دیکھا

حال موجود ہے۔

☆ دو صفحات پر مشتمل تاریخی شہ پارے بعنوان ”مادہائے تاریخ وصال سلطان زماں مولانا ہردوئی“ بھی نذر

قارئین ہیں۔

☆ ملک و بیرون ملک کے مایہ ناز علماء اور اکابر کے پیغامات بھی شامل اشاعت کئے گئے ہیں۔

☆ حضرت محی السنۃ کے جانشین و داماد جناب حکیم کلیم اللہ صاحب کا مختصر اور جامع مضمون بھی افادیت و اہمیت کے

پیش نظر خصوصیت کے ساتھ بحکم ناظم مدرسہ حضرت مولانا محمد سعیدی شریک اشاعت کیا گیا ہے۔ فلک عشرۃ کاملہ

سعدا و فرامین

آئینہ مظاہر علوم کے خصوصی شمارہ ”محی السنۃ نمبر“ کیلئے ملک اور بیرون ملک سے جن ممتاز علماء کرام اور محروہ اصحاب قلم نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود اپنا بیش قیمت وقت صرف فرما کر پیغامات و فرامین یا مقالات و مضامین ارسال فرمانے کی زحمت گوارا کی ہے، ہم ان کے بے حد مہنوں و شکر گزار ہیں، پیغامات کی ترتیب میں تاریخ تحریر کو معیار بنایا گیا ہے۔

(ادارہ)

حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی دامت برکاتہم

دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سرپائے کرم و اخلاص محترم المقام حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب زید مجدکم السامی، ناظم مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزان اقدس! عافیت خواہ بعافیت ہے! گرامی نامہ شرف صدور ہوا، یہ اطلاع پا کر بے انتہا
مسرت اور خوشی ہوئی کہ آپ کے مدرسہ کے ترجمان ماہنامہ ”آئینہ مظاہر علوم“ کا خصوصی نمبر حضرت اقدس محی السنۃ شاہ
ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ وعلی اللہ مراتبہ کے تعلق سے شائع کیا جا رہا ہے، حضرت اقدس قدس سرہ کا
وصال عالم اسلام کیلئے جانکاہ صدمہ ہے اس غربت اسلام کے زمانے میں امت مسلمہ کے لئے ایک بڑی محرومی ہے۔

منصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے
وما کان قیس ہلک ہلک واحد لکنہ بنیان قوم تہدما
حضرت اقدس اللہ کے ان مخصوص برگزیدہ بندوں میں تھے جنہیں ہمہ وقت اللہ کے بندوں کی ہمہ گیر اصلاح
اور ہدایت کی فکر رہا کرتی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے عاشق زار تھے، وہ چاہتے تھے کہ
سارے لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ڈھل جائیں، وہ بزم اشرف کے آخری چراغ تھے، ان کا
مزان و مذاق حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، انہوں نے حضرت تھانویؒ کے وصال کے
بعد تقریباً ساٹھ سال تک مسلسل حضرت کے افکار و علوم، ہدایات و تعلیمات کو عام کیا ہے۔

اصلاح منکرات، احیاء سنت، تصحیح تلاوت قرآن کریم، تصحیح و اقامت نیز تصحیح صلاۃ (جو درحقیقت مذہب
اسلام کی بنیادیں ہیں) یہ چیزیں حضرت کی پرگ رگ میں سرایت کر گئی تھیں۔ زندگی کے آخری لمحے تک وہ ان
چیزوں سے غافل نہیں رہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کو اپنے قرب خاص کے درجات عالیہ سے سرفراز فرمائیں نیز ہم سب لوگوں کو ان کے
نقوش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین والسلام

ناکارہ عبدالحق غفرلہ

خادم دارالعلوم دیوبند

حضرت اقدس مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

کراچی (پاکستان)

عزیز مکرم مولانا محمد سعیدی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، محی السنۃ حضرت مرشدنا و مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات
سے دل صدمہ سے پاش پاش ہے، ہم سب یتیم ہو گئے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات بلند فرمائیں اور جنت الفردوس
میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ آمین
احیاء سنت، قرآن پاک کی خدمت، تجوید و قرأت کی تصحیح اور تزکیہ و اصلاح کا جو عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ
نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور شاید اسی کی بشارت حضرت حکیم الامت مجدد الملت
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی کہ

”مولانا ابرار الحق صاحب سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام لیں گے“

غرض حضرت کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کے پر ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن اللہ
تعالیٰ اپنے دین کے حامی و ناصر ہیں اپنے فضل سے حضرت والا کی ان خدمات کو قیامت تک جاری رکھیں خصوصاً
قرآن پاک کے مکاتب کا جو جال حضرت والا نے پورے ملک میں پھیلا یا ہے اور ملک و بیرونی ممالک میں
حضرت کا جو فیض جاری ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے قیامت تک امت کو مستفید فرما دیں اور ہم سب کو
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آمین

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کے خصوصی نمبر کی خبر سے خوشی ہوئی، احقر کے
دائے ہاتھ پر فالج کا اثر ہے اس لئے مضمون لکھنے سے قاصر ہے لہذا اس خط کو ہی احقر کا مضمون شمار کر لیا جائے،
خانقاہ کے ماہنامہ الابراہیم کا خصوصی نمبر بھی عنقریب شائع کرنے کا ارادہ ہے، اس سلسلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ
کے متعلق معلومات و مضامین اگر ارسال کریں تو احقر ممنون ہوگا۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۲۹۔ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ مطابق ۷ جولائی ۲۰۰۵ء

حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری مدظلہ محدث دارالعلوم دیوبند

بسم

حضرت مولانا محمد سعیدی مظاہری ناظم و متولی مظاہر علوم وقف سہارنپور

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی شخصیت ایک عہد ساز شخصیت تھی وہ اپنی ذات میں ایک الجمن تھے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ تھا، تصانیف و تربیت کی راہوں سے آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ کی تیار کردہ شخصیات میں بہت سے آفتاب و ماہتاب بن کر ابھرے ہیں ان میں ایک نمایاں شخصیت حضرت اقدس مولانا ابراہیم صاحب حق کی تھی، آپ حضرت تھانوی کی خانقاہ کی آخری کڑی تھے، اور آپ سے بھی ایک دنیا نے فیض پایا ہے، آپ کی زندگی کا نمایاں کارنامہ قرآن کریم کی تصحیح اور سنت کا احیاء ہے، قرآن کریم صحیح پڑھنے کیلئے آپ نے دعوت الحق کا سلسلہ قائم فرمایا، برصغیر میں جگہ جگہ اس نام سے ادارے قائم ہیں جو قرآن کریم کی بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کے وطن ہردوئی میں آپ کا ادارہ اسی نام سے بہترین کام کر رہا ہے اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور نورانی قاعدہ پڑھ کر منور ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تصحیح کرتے ہیں اور اس کا جذبہ لیکر مراجعت فرما ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے سنت کے احیاء کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا آپ واقعی محی السنہ تھے، اذان و اقامت اور نماز کی سنتوں کی تصحیح اور ان کا احیاء آپ کا خاص مشن تھا اور اس سلسلہ میں آپ نے مبالغہ کی حد تک کام کیا ہے۔

فتاویٰ تاتارخانیہ کا ایک جزئیہ ہے کہ قومہ سے سجدہ میں جاتے ہوئے رکوع کی ہیئت پیدا کر کے نہیں جانا چاہئے ورنہ نماز میں ایک رکوع کا اضافہ ہو جائے گا جو موجب سجدہ ہو ہے، حضرت اس جزئیہ کی خصوصی تلقین فرماتے تھے اور اپنے کسی خادم کے ذریعہ عملی مشق بھی کراتے تھے مگر میں نے دیکھا ہے کہ نمونہ پیش کرنے والا شخص حضرت قدس سرہ کی صحیح مراد نہیں سمجھتا تھا، وہ سیدھا لکڑی بنا ہوا سجدہ میں جاتا تھا حالانکہ حضرت کی یہ مراد نہیں تھی۔ میں نے خود ایک مرتبہ مدرسہ محمودیہ میرٹھ میں حضرت قدس سرہ سے پوچھا تھا کہ میں ”بارے ڈور“ گیا تھا وہاں چند نوجوانوں کو عجیب طرح سے قومہ سے سجدہ میں جاتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا حوالہ دیا، اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”جس طرح مزدور پھاؤڑا چلاتا ہے اس طرح سجدہ میں نہیں جانا چاہئے“ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مزدور جب پھاؤڑا چلاتا ہے تو آدھا جھک جاتا ہے، اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں پس ایسی ہیئت پیدا ہوگی تو ایک اور رکوع ہو جائے گا پھر جب حضرت قدس سرہ نے مسجد میں بیان کیا تو یہی مسئلہ بیان فرمایا اور ایک خادم سے عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے فرمایا اس نے اسی طرح لکڑی بن کر سجدہ کر کے دکھایا جب کہ حضرت قدس سرہ کی یہ مراد نہیں تھی۔

خیر یہ مسئلہ تو درمیان میں آ گیا مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا احیاء سنت کا ذوق بے مثال تھا، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ماہنامہ ”آئینہ مظاہر علوم“ ایک یادگار نمبر نکال رہا ہے، مجھے یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی ضروری ہے کہ حضرت کے مشن کو زندہ رکھا جائے اور آپ کے کارناموں کا خوب چرچا کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس نمبر کو کامیاب فرمائیں اور امت کو اس سے فیض یاب فرمائیں۔ والسلام

سعید احمد
مدظلہ محدث دارالعلوم دیوبند

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند

۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی مدظلہ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی مونگیر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عزیز مکرم مولانا محمد سعیدی صاحب حفظہ اللہ

خدا کرے مزاج گرامی بعافیت ہوں!

خوشی ہوئی کہ آئینہ مظاہر علوم کا ”محی السنۃ نمبر“ آرہا ہے، محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کا اسم گرامی سامنے آتا ہے تو اصلاح اور مسلسل اصلاح، سنت کا اہتمام، اکابر کی وضع کی پابندی، دینی روایتوں کا خاص اہتمام، قرآن مجید صحیح طریقہ پر پڑھنے کی فکر اور اس کی عملی جہت سامنے آجاتی ہے یہ ان کی زندگی کے چند عنوانات ہیں جن پر انہوں نے کام کیا جس کے ملک اور ملک سے باہر بھی گہرے اثرات صاف طور پر محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں کام کرنے کا جو حوصلہ، سلیقہ اور طریقہ انہیں عطا فرمایا تھا اس میں وہ اپنے عہد میں بہت ممتاز رہے ہیں اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مرشد گرامی حکیم الامت حضرت تھانوی کی صحبت اور قربت کی ان پر گہری چھاپ تھی۔

اصلاح کی خاطر حق گوئی اور صاف گوئی ان کا ممتاز وصف تھا، زندگی گزارنے اور اداروں کو چلانے اور بڑھانے میں اصول پسندی ان کی نمایاں خوبی تھی، معمولات پر مداومت ان کا مزاج بن چکا تھا اور سب سے بڑھ کر جہت نمایاں قرآن پاک کی خدمت ہے، قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تجوید کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھانا، پڑھانے والوں کو تیار کرنا ان کی مہم تھی، اس کے لئے ادارے قائم کرنا ان کی تحریک تھی، یہ پہلو ان کی زندگی کا بڑا تابناک ہے اور اس کے اثرات بند آنکھوں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

مدرسہ اشرف المدارس ہر دوئی صرف دینیات اور اسلامیات کی ترویج و اشاعت کا گہوارہ ہی نہیں بلکہ روح اور روحانیت کو صیقل کرنے کا عظیم سرچشمہ ہے، اس سرچشمہ سے خدا معلوم کتنے بندوں نے رشد و ہدایت کے ساتھ سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی ہیں جس کا سہرا حضرت مخدوم کے سر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے ذریعہ حضرت تھانوی کے فیوض و برکات کی ترویج و اشاعت کا جو عظیم کام لیا ہے اس کیلئے ان کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد گرامی کے عکس جمیل تھے۔

اللہ تعالیٰ ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کے خصوصی شمارہ ”محی السنۃ نمبر“ کو قبول فرمائے اور جس طرح حضرت محی السنۃ کی ذات گرامی بہت ممتاز تھی دعا گو ہوں کہ ان کے حالات و معمولات، افادات و ارشادات پر مشتمل یہ دستاویز بھی ممتاز سے ممتاز تر ہو جسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، توجہ سے پڑھا جائے اور صلاح و اصلاح کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العلمین۔ والسلام

محمد ولی رحمانی

۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب مدظلہ ہمتہ جامعہ گلزار حسینہ اجڑاڑہ میرٹھ

مکرم و محترم جناب مولانا محمد سعیدی صاحب، ناظم و متولی مظاہر علوم (وقف) سہارنپور
محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہر دوئی کی وفات ”موت العالم موت العالم“ کی مکمل تفسیر تعبیر ہے، حضرت شاہ صاحب اکابر
و شیوخ کی نشانی خصوصاً حضرت تھانویؒ کے خلفاء کی آخری کڑی تھے، حضرت کی وفات برصغیر کے مسلمانوں کا عظیم علمی غم اور اصلاحی خسارہ ہے۔
حضرت شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت مظاہر علوم کے اکابر و شیوخ بالخصوص حضرت الحاج مفتی قاری سعید احمد اجڑاڑوی کی زیر نگرانی ہوئی
، جس کا تذکرہ آپ برابر فرماتے تھے، اسی تعلق کا اظہار آپ فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری ناظم مظاہر علوم
سہارنپور کے ساتھ تاحیات فرماتے رہے۔

جس وقت مرشدی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دوئی کا اشارہ فرمایا تو میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں لکھنؤ سے
حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت شاہ صاحب نے میرے ساتھ جس درجہ غیر معمولی محبت و شفقت اور خورد و نوازی کا مظاہرہ فرمایا وہ
لمحات میرے لئے انتہائی سعادت مند تھے، اپنی کبر سنی اور انتہائی نقاہت کے باوجود دو گھنٹہ تک میرے ساتھ رہے اور کرسی پر بیٹھ کر انتہائی خوشی
و مسرت کے ساتھ اپنے ادارہ کی ایک ایک چیز دکھاتے رہے اور آخر میں یہ فرمایا کہ ”عبداللہ! میں اپنے معمولات کے خلاف تمہارے ساتھ یہ
عمل اس لئے کر رہا ہوں کہ تم میرے مشفق و مربی اور استاذ حضرت مولانا قاری سعید احمد اجڑاڑوی کے اس مدرسہ کے نگران اور ذمہ دار ہو جس
کے وہ پہلے شاگرد تھے، آج بھی میں اسی تعلق کی بنیاد پر حضرت مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری جو ایک عالم با عمل شخصیت اور اکابر مظاہر علوم
کے روایات کے امین ہیں ان سے غیر معمولی محبت رکھتا ہوں۔“

حضرت کے نرم اور گرم معمولات اور احیاء سنت کی تحریک سے برصغیر کے لاکھوں افراد کو راہ اعتدال ملی ہے جو مذہب اسلام کی
نمایاں خصوصیت اور تعلیمات نبویؐ کی روح ہے، حضرت شاہ صاحب نے اپنے رشد و ہدایت کے عمل اور ریاضت و مجاہدات سے ہر دوئی کی سر زمین
کو عالمی شہرت عطا کی اور مجلس ”دعوت الحق“ کے ذریعہ برصغیر میں اپنی تحریک تعلیم و تربیت و اصلاح عملی شکل میں چھوڑی جس کے تابندہ نقوش رہتی
دنیا تک باقی رہیں گے۔ ان شاء اللہ!

حضرت والا مرحوم کی ذات عوام و خواص میں بڑی مقبول اور پرکشش تھی، آپ نے اس دور الحاد اور دین سے بے رغبتی کے ماحول میں
احیاء سنت کیلئے کلیدی کردار پیش کیا اور کبھی دین میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا، ہر دوئی سے سہارنپور اور سہارنپور سے تھانہ بمون پہنچ کر
حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی خدمت و تربیت میں رہ کر کندن بننے والا یہ انسان شیخ وقت اور اسم ہاسٹمی محی السنۃ ثابت ہوا۔

آپ کی حیات اور دینی علمی و اصلاحی خدمات کو اجاگر کرنے کیلئے مظاہر علوم وقف کے ناظم و متولی جناب حضرت مولانا محمد سعیدی مدظلہ العالی
نے مظاہر علوم وقف کے ترجمان ”آئینہ مظاہر علوم“ کا خاص شمارہ محی السنۃ نمبر نکال کر حضرت والا کی مظاہر علوم وقف سے وابستگی اور محبت کا
حق ادا کیا ہے۔..... میں اس موقع پر حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم اور خاص شمارہ کے مرتبین محبت اور اساتذہ کرام
کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت شاہ صاحبؒ کی حیات و خدمات اور معمولات پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے اور حضرت شاہ صاحب کو ان الابوار لغنی نعیم کا حقدار بنا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام

مستند
عبداللہ مغنشی

ہمتہ جامعہ گلزار حسینہ اجڑاڑہ میرٹھ

۲۹۔ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ مطابق ۷ جولائی ۲۰۰۵ء

حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی مدظلہ ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند

بسم

حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب ناظم و متولی مظاہر علوم (وقف) سہارنپور

احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم!

راقم الحروف کو یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ماہنامہ ”آئینہ مظاہر علوم“ اپنا ”محی السنۃ نمبر“ نکال رہا ہے۔

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس کی مستحق ہے کہ ان کی باکمال شخصیت کے مختلف اہم اور امت کیلئے مفید تر پہلو سامنے لائے جائیں تاکہ اس سے عام مسلمان، مشائخ اور علماء سب ہدایت حاصل کر سکیں اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے صبر آموز سبق کو یاد کر سکیں جس کو موصوف نے زندہ کیا اور ان کی کوئی مجلس اس سے خالی نہ تھی۔

یہ فقیر دعا گو ہے کہ اللہ مولانا موصوف کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور آئینہ مظاہر علوم کی اس کاوش کو قبول فرمائے آمین۔ والسلام

سید ارشد مدنی

خادم دارالعلوم دیوبند

۱۳۲۶/۶/۲ھ

شیخ الاسلام حضرت مولانا عبداللطیف صاحبؒ نے جناب محمود الحق صاحب ایڈوکیٹؒ سے پوچھا کہ آپ کا ایک بیٹا انگریزی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور دوسرا بیٹا یہاں مظاہر میں زیر تعلیم ہے دونوں میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا؟..... ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا ہاں! اتنا فرق ضرور ہے کہ جب میں صاحب بہادر سے جوتے مانگتا ہوں تو نوکر کے ہاتھوں بھی بھجوا دیتے ہیں اور مولوی ابرار الحق خود ہی لے کر آتے ہیں۔ (ادارہ)

حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث و نایب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مولانا محمد سعیدی صاحب! ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مجھے یہ معلوم ہو کر نہایت خوشی اور مسرت ہوئی کہ آپ حضرات ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کا خصوصی شمارہ ”محی السنۃ نمبر“ شائع فرما رہے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تھانوی کے آخری چشم و چراغ اور سنت رسول اللہ کا مستحکم ستون تھے، آپ کی وفات سے عالم اسلام بالخصوص تھانوی برادری یتیم ہو گئی ہے۔

انہوں نے اپنی پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں صرف فرما کر ایک طرف اپنے مرشد حضرت حکیم الامتؒ کی روح مبارک کو مسرور کیا تو دوسری طرف اپنی مادر علمی مظاہر علوم کا نام نامی پورے عالم میں روشن فرمایا، ان کی خدمات تاریخ کا ایک روشن باب ہیں جو رہتی دنیا تک تشنگان علم دین کو سیراب کرتی رہیں گی۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی قحط الرجال کے اس دور میں بسا غنیمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ تھکنے والا ذہن و دماغ عطا فرمایا تھا، ان کی پاکیزہ ذات گرامی پر ”خصوصی شمارہ“ کی اشاعت لائق تحسین و آفرین ہے۔ مظاہر علوم سے حضرتؒ کی وابستگی اور اس کے نتیجہ میں وفات سے پہلے آپ کی وہاں حاضری اور حضرت سے عین وفات کے روز اکتساب فیض آپ پر حق تعالیٰ شانہ کے فضل خاص کا نتیجہ ہے جو آپ کی سعادت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام و تمام فرمائے اور آپ کی مساعی کو شرف قبول سے نوازے۔

نصیر احمد

نصیر احمد

۱۵/ج-۱/۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم

مفتی دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون

حضرت المحترم ناظم صاحب مظاہر علوم وقف سہارنپور

یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ حضرت تھانویؒ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحقؒ پر خصوصی نمبر شائع کر رہے ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس زمانہ میں حضرت تھانویؒ کی زندہ یادگار کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے نقش قدم کے سچے پیروکار تھے، اتباع سنت میں بے مثال تھے، اپنے حلقہ میں انہوں نے ان تمام سنتوں کو زندہ کر رکھا تھا جو آج کل مٹی جا رہی ہیں، رعایت اس باب میں قطعاً نہیں تھی بلکہ سخت مشہور تھے، اب ایسے افراد امت میں نایاب ہیں، حضرت جہاں پہنچتے تھے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی، خاص و عام بہت اطمینان سے آپ کی باتیں سنتے، اور سننے والے سن کر بخود ہوتے تھے، آپ کی مجلس میں شریک ہونے والوں میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی تھی اور پھر ان کے ذریعہ سنت کی ترغیب ہوا کرتی تھی، خاکسار کی ملاقات دو چار دفعہ کی ہی تھی مگر آپ سے کافی عقیدت و محبت رکھتا تھا، ان شاء اللہ آپ ان الابرار لفی نعیم میں داخل ہوں گے آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والے محروم نہ رہیں گے۔

رب العالمین اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائیں گے۔

والسلام طالب دعا:

محمد ظفر الدین غفرلہ

محمد ظفر الدین غفرلہ

مفتی دارالعلوم دیوبند

۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی مدظلہ العالی

ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ
بنام:- حضرت مولانا محمد سعیدی مظاہری ناظم و متولی مظاہر علوم وقف سہارنپور

برصغیر ہند و پاک میں جو کہ آج سے ۵۷ سال قبل ایک ہی ملک تھا، ایسے ایسے بندگان خدا پیدا ہوئے کہ جن سے اس عظیم ملک میں بزرگوں کا ایک عظیم سلسلہ قائم ہوا جن کے اخلاص عمل، راہ خدا میں قربانی، ذاتی زندگی میں تقویٰ و احتیاط اور خشیت الہی کے حالات اور واقعات خود ان کے زمانوں میں اور بعد میں آنے والے وقتوں میں مرد مومن کی زندگی کا اسوہ بنے اور اس ربانی اور روحانی سلسلہ کی برکت سے سب کو فیض پہنچا اور پہنچ رہا ہے، اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی حضرت محی السنۃ مولانا شاہ ابرار الحق حقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ جن کو محی السنۃ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے گزشتہ صدی میں تجدید و احیاء سنت و شریعت کا بڑا کام انجام دیا تھا اور اس کام میں اپنے خلفاء کی ایک خاصی تعداد چھوڑ کر رخصت ہوئے تھے ان کے سب سے کم عمری میں ہونے والے خلیفہ تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم القدر شیخ کے بعد خاصی مدت ۶۲/۶۳ سال تک خدمت دین و شریعت کے کام کے لئے باقی رکھا تھا، خدمت دین و شریعت کے کام میں وہ اپنے رفقاء کے یکے بعد دیگرے رخصت ہونے پر مرجع خلافت بنتے چلے گئے اور ان سے اس برصغیر کے طالبان کو اصلاح کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا رہا وہ بھی گزشتہ دنوں (۹ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ کی شب کو تقریباً ۸۷ سال کی عمر میں) اپنے بے شمار معتقدین اور مریدین کو غمزدہ چھوڑ کر اپنے خالق و مالک سے جا ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

وہ متعدد سالوں سے کچھ علالت کی حالت میں تھے لیکن دین کی تقویت اور اصلاح و تزکیہ کا کام اسی شغف اور توجہ سے انجام دیتے رہے تھے، اور اس کا انہوں نے شروع سے اہتمام رکھا اور باوجود معذوریوں کے وہ سفر بھی کرتے رہتے تھے، لوگوں کو اتباع سنت اور دین کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی

شدت سے تلقین کرتے تھے اور اپنا سارا وقت اسی میں لگاتے تھے لوگوں سے ملاقاتوں میں، اپنی مجلس میں برابر ان دینی کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے جو مسلمانوں میں بلکہ دینداروں میں بھی بے خیالی کے سبب پھیل گئی ہیں، اصلاحی کام میں اپنی خاص توجہ میں دوسروں سے کہیں زیادہ فکر و اہتمام کرنے والے تھے، اس طرح ان کمزوریوں کا ازالہ بہت سے لوگوں سے ان کے ذریعہ انجام پایا، ان کے فیض صحبت سے بہت لوگوں کو دینی اصلاح اور احکام شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کے کام کا حوصلہ ملا اور ان کے کاز کو ان کے خلفاء اور مریدین نے اختیار کیا جس کے ذریعہ ان کا فیض بالواسطہ الحمد للہ جاری ہے۔

انہوں نے اپنے اصلاحی مقصد کے لئے جگہ جگہ مکاتب بھی قائم کئے اور ان مکاتب کو چلانے کیلئے ادارے قائم کئے جو ”مجلس دعوة الحق“ کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور اپنے وطن ہردوئی میں ایک بڑا مدرسہ ”اشرف المدارس“ کے نام سے قائم کیا جو تعلیم دین کے مختلف شعبوں پر مشتمل ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی تصحیح کے کام و اہتمام میں وہ اپنی خاص شہرت بھی رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت والا کو امت اسلامیہ کی طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کا عظیم صلہ عطا کرے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اخلاف کو ان کا بدل بنائے، خاص طور پر ان کے جانشین محترمی جناب حکیم کلیم اللہ صاحب کو جو ان کے داماد بھی ہیں ان کے سلسلہ اصلاح و تربیت کے ان کے جاری کردہ نظام کی تقویت کا ذریعہ بنائے۔

الرحمۃ

محمد رابع حسنی ندوی

ندوة العلماء لکھنؤ

۳ جمادی الثانی ۱۴۲۶ھ ۱۰ جولائی ۲۰۰۵ء

نہمۃ الابرار تفسیر کی ایک کتاب ہے جس کو بہت سے لوگ
حضرت محی السنۃ مولانا ابراہیم الحق صاحب کی تصنیف سمجھتے ہیں
یہ غلط ہے، حضرت کی تصانیف میں نہمۃ الابرار
نامی کوئی کتاب نہیں ہے۔

حضرت مولانا فضیل احمد قاسمی مدظلہ، جنرل سکریٹری مرکزی جمعیت علماء ہند

برادر محترم مولانا محمد صاحب سعیدی زید لطفہ ناظم و متولی مظاہر علوم وقف سہارنپور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا کرے مزاج گرامی بخیر ہوں! آپ نے أحب الصالحین کا عملی نمونہ پیش کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور حضرت ہردوئی کی حیات و خدمات پر مشتمل ”آئینہ مظاہر علوم“ کی خصوصی اشاعت منظر عام پر لا رہے ہیں، اس خبر نے ہمیں بہت مسرور کیا، مظاہر علوم وقف جیسے بین الاقوامی ادارہ کی جانب سے ایک بین الاقوامی روحانی پیشوا کی زندگی کے مثالی نمونوں کو نئی نسل کے لئے پیش کرنا چراغ روشن کرنا ہے اور فہد اہم اقتدہ کی دعوت دینا ہے، قرآن کریم نے انبیاء کی زندگی کو واقعات و قصص کی شکل میں گلہ دستہ بنا کر پیش کیا اور گل چینی کی دعوت فہد اہم اقتدہ کے عالی فرمان کے ذریعہ دی ہے۔

اولیاء اللہ کی زندگیاں انبیاء کی پیروی و اتباع میں گزرتی ہیں، اسلئے سیرت رسول کے بعد خاموش مربی بزرگوں کی سوانح عمریاں ہیں، ابھی کچھ دن پہلے جب ہماری نگاہیں پورے برصغیر میں کسی بزرگ کو ڈھونڈتیں تو حضرت ہردوئی پر جا کر ٹک جاتیں، افسوس اب نگاہوں کا ایسا کوئی مرکز نہ رہا، ہمیں امید ہے کہ حضرت کی خصوصیات و خدمات اور اعلیٰ صفات کا تذکرہ آپ کے خصوصی نمبر میں پڑھنے کو ملے گا، ہمارے تو وہ سر پرست تھے، ہر موقع پر انہوں نے ہمیں یاد رکھا، آج ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے میں کوشاں ہیں۔

حضرت کی بڑی خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھی وہ اس معاملہ میں کسی کی رعایت نہ فرماتے، دعوت ان کی پر حکمت ہوتی، دل کی دنیا بدل جاتی، کیفیات قلب میں تلاطم پیدا ہوتا اور قلب جاری ہو جاتا، میں تو خردوں کا خرد ہوں مجھ پر بھی بڑی عنایات رہیں، حضرت والا ہردوئی جب دہلی تشریف لاتے تو شفقت فرماتے، فون کرواتے اور ہم دعا کے لئے، خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاتے۔

اللہ غریق رحمت کرے ہمیں ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کی مساعی کو قبول فرمائے اور اس خصوصی اشاعت کو شرف قبولیت و مقبولیت سے نوازے۔ لعل اللہ یرزقنا صلاحاً

والسلام
فضیل احمد
فضیل احمد قاسمی

جنرل سکریٹری مرکزی جمعیت علماء ہند

۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم

بنام

حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب مدظلہ ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب قدس سرہ جیسی عبقری شخصیت کے متعلق مجھ جیسے علم و عمل سے بے بضاعت کے لئے ان کے شان عالی کے مناسب لکھنا ذرہ بے مقدار کا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے مگر آپ کی فرمائش پر یہ چند کلمات سپرد قریاس کرتا ہوں۔
در حقیقت حضرت مولانا قدس سرہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کی خدمات دینیہ ساری امت میں اظہر من الشمس ہیں اور صحیح معنوں میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب اور وارث تھے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمودہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد حسنہ یعنی تلاوت کلام اللہ اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کی خدمات پوری زندگی انجام دیتے رہے نیز حدیث جبریل میں حضور اکرم کے بیان فرمودہ اعمال اسلام اور صفات ایمان اور نسبت احسان کے معنی و مفہوم کی توضیح و تشریح بلکہ ان حقائق سے اتصاف کی طرف ترغیب و تحفیض فرماتے رہے جو حضرات ان کی خدمت بابرکت میں آمد و رفت رکھتے تھے ان پر یہ باتیں عیاں ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ان کے مرشد مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ یہی خدمت اپنی حیات طیبہ میں انجام دیتے رہے۔

اس سلسلہ میں ہزاروں کتابیں تصنیف فرمائیں اور ہزار ہا ہزار اشخاص کو دین حنیف کے رنگ میں رنگ کر اور دلوں پر کتاب و سنت کی عظمت و رفعت کو بٹھلا کر اور سیکڑوں خلفاء اور مجازین کو اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعہ کامل و مکمل فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے جو اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب کا درجہ رکھتے تھے خصوصاً اس حقیر نے حضرت مصلح الامت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ اور حضرت محی السنۃ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی خدمت میں رہ کر ان کی تعلیم و تربیت کی شان و کمال کو عیاناً دیکھا گویا حضرت حکیم الامت مجدد الملت کے تجدیدی کام کی تکمیل فرمائی ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

مگر افسوس صد افسوس کہ ابھی چند ہفتے ہوئے کہ بزم اشرف کے آخری چراغ کی روشنی سے بھی ہم محروم ہو گئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔
حقیقت یہ ہے کہ شخصیات اصل نہیں ہوتیں بلکہ ان کی تعلیمات اصل و قابل اقتداء ہوتی ہیں جو ابھی بھی الحمد للہ ان کے رسائل میں اداروں بلکہ سینوں میں محفوظ ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے اپنے کو آراستہ کر کے پوری امت کو ان تعلیمات و ہدایات سے روشناس کرائیں اور حضرت مولانا کی روح پر فتوح کو شاد کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین واللہ الموفق والہادی الی الہدی والرشاد۔

محمد قمر الزماں الہ آبادی

محمد قمر الزماں الہ آبادی

۳ جمادی الثانی ۱۴۲۶ھ / ۱۰ جولائی ۲۰۰۵ء

مکتبہ دار المعارف ۶۳۹/ بی وصی آباد الہ آباد یو پی

Maktaba Darul Maarif

639/B, Wasibad Alld.(U.P.)

Pin: 211003

حضرت مولانا ریاست علی ظفر بجنوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

مکرمی جناب مولانا محمد سعیدی حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا کرے مزاج بعافیت ہوں!

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی مشہور اور مایہ ناز شخصیت کے مالک تھے، ان کی زیارت و ملاقات اور اکتساب فیض کے لئے لاکھوں لوگ بے قرار رہتے تھے۔

حضرت کی حیات مبارکہ تطبیق شریعت و اتباع سنت سے عبارت تھی، آپ قرآن مقدس کی تعظیم و محبت کے سلسلہ میں نزاری شان رکھتے تھے، احیاء سنت اور قرآن و اذان کی اصلاح کے بارے میں آپ کا مبارک شغف پوری امت کیلئے قابل تقلید اور مثالی عمل ہے۔

رجال سازی کی بھی ایسی صلاحیت آپ کو عطا ہوئی تھی کہ آپ کی نگاہ مؤمنانہ سے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا وہ جادہ حق کے راہی بنے اور کتنے ہی لوگ مرشد و مصلح، داعی و مبلغ اور ہادی و رہبر بن گئے۔

حضرت محی السنۃ جیسی شخصیت بہت کم نصیب ہوتی ہے، ان کے سانچہ ارتحال کے بعد ان کے فیوض و برکات جو پاکیزہ اخلاق، مواعظ و ملفوظات اور تعلیم و تربیت و تزکیہ نفس کے نظام کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں وہ مشعل راہ کا کام کرتے رہیں گے ان شاء اللہ۔

یہ بات بہت قابل مبارکباد اور خوش آئند ہے کہ مظاہر علوم وقف کا دینی دعوتی و اصلاحی رسالہ ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم حضرت کی حیات طیبہ کے روشن پہلوؤں کو امت کے سامنے پیش کرنے کی سعی میمون کرتے ہوئے ان پر خصوصی شمارہ شائع کر رہا ہے جس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ حضرت کی تعلیمی زندگی کے وہ گوشے بھی منظر عام پر آجائیں جو صرف مظاہر علوم وقف کے ریکارڈ اور دفتری دستاویزات سے ہی مستفاد ہو سکتے ہیں مثلاً مدرسہ کی طرف سے حضرت کو دی گئی سند فراغ کی نقل وغیرہ، اس سے حضرت کی سوانح پر کام کر نیوالے حضرات کو بڑی رہنمائی ملے گی۔

یہ معلوم ہو کر مزید خوشی ہوئی کہ حضرت محی السنۃ کے سانچہ ارتحال والے دن آپ ان کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے اور مرض الوفا لاحق ہونے سے پہلے حضرت نے آپ سے وفور بشارت اور کمال انبساط کے ساتھ تفصیلی گفتگو فرمائی تھی، اپنی دعاؤں اور مواعظ و نصائح سے نوازا تھا، حضرت کی مبارک زندگی کے یہ آخری لمحات آپ کیلئے بیش قیمت سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ آپ کو استقامت اور بلندی اقبال سے نوازے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور اس خصوصی محی السنۃ نمبر کو شرف قبول عطا فرمائے۔

ریاست علی ظفر بجنوری

خادم دارالعلوم دیوبند

۵ جمادی الثانی ۱۴۲۶ھ

جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ العالی صدر جمعیت علماء ہند

بنام

حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب مدظلہ ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور

مکرم و محترم زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مجھے ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کے خصوصی شمارہ ”محی السنۃ نمبر“ کی اطلاع ملی بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین

بدلہ

عطا فرمائے اور ”محی السنۃ نمبر“ کے ذریعہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب

کے حالات طیبات کو تمام مسلمانوں تک

پہنچانے کا بہترین سبب بنائے۔

خیر اندیش

اسعد مدنی

صدر جمعیت علماء ہند

حضرت مولانا مفتی عبداللہ مظاہری مدظلہ، ناظم جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ، بھروچ (گجرات)

بنام

حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب مدظلہ، ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی قدر زید مجدہ

ملت اسلامیہ کیلئے جن علماء و مشائخ کی بابرکت ہستیاں سہارا بنی ہوئی تھیں اور روئے زمین پر جن کا وجود مسعود رحمت الہی کیلئے ورود کا ذریعہ ہوا کرتا تھا، انہی نفوس قدسیہ میں محی السنۃ مصلح الامت حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب حق رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر تھی، آپ کی زندگی اتباع سنت سے عبارت تھی، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی فکر اتباع سنت کی دعوت، احیاء سنت کیلئے ہمدوقی وہمہ جہتی فکر، امت کیلئے عظیم نمونہ تھا، بغیر مدہنت و بلا خوف لومۃ لائم حق گوئی آپ کی امتیازی شان تھی، آپ کی گرانقدر تعلیمات کی اشاعت اور سنت و شریعت سے ہم آہنگ زندگی ہی ہم چھوٹوں کی طرف سے حضرت والا کیلئے خراج عقیدت ہے۔

مجھے یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ ”مجلد آئینہ مظاہر علوم“ سہارنپور حضرت والا کی حیات طیبہ پر خصوصی شمارہ شائع کر رہا ہے، حضرت والا مظاہر علوم وقف کے فیض یافتہ اور اس کے عظیم بیوت تھے، مادر علمی کی طرف سے اپنے عظیم فرزند کے حوالے سے خصوصی اشاعت یقیناً ایک بہترین خراج عقیدت ہے، میں اس مستحسن اقدام پر مادر علمی مظاہر علوم کے ذمہ داران اور مجلہ کے مدیر و منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور حضرت والا کو اپنی خصوصی جوار رحمت میں جگہ دیں، آمین۔ فقط والسلام مع الاحترام



عبداللہ مظاہری

بانی و ناظم جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ گجرات

۱۱/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

حضرت الحاج مولانا ابراہیم صاحب

حضرت حکیم اُمت بیضا کے فیض سے
تھے اہل دل حضرت ابرار ارفع حال
تھے حامل محاسن شرع و سلوک و دیں
اور اپنی ذات عالی میں وہ پیکر جلال

(حضرت مولانا) انعام الرحمن صاحب تھانوی ناظم شعبہ نشر و اشاعت مظاہر علوم وقف سہارنپور

حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ مظاہری مدنی مدظلہ

(خادم خاص و خلیفہ اجل شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی) مدینہ منورہ زادہا اللہ شرفاً

عزیز گرامی قدر جناب مولانا محمد سعیدی صاحب، حفظکم اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کے ”خصوصی شمارہ“ کی اطلاع سے انتہائی مسرت ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس گرانقدر خدمت کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔

حضرت محی السنۃ کو شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ سے نہ صرف اکتساب فیض اور آپ کے دربار گہر بار سے خوشہ چینی کا خوب موقع ملا تھا بلکہ حضرت شیخ الحدیث سے متوسطات کے علاوہ بخاری شریف اور ابوداؤد شریف بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

حضرت شیخ الحدیث سے حضرت محی السنۃ نے صرف تلمذ کا رشتہ ہی نہیں رکھا بلکہ آپ کی عرفانی و ملکوتی شخصیت سے اپنی روحانیت کو بھی تسکین بہم پہنچاتے رہے، ایک بار حضرت شیخ نے ابوداؤد شریف کے درس میں فرمایا تھا کہ ”طالب علم اگر طالب علمی ہی کے زمانے میں صاحب نسبت نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، مولانا ابرار الحق صاحب کو اللہ پاک نے طالب علمی ہی کے زمانہ میں یہ دولت عطا فرمائی تھی“

حضرت شیخ کا معمول تھا کہ وہ محنتی طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے ان کو ان کی کتابی محنت پر اپنی طرف سے خصوصی انعامات سے بھی نوازتے، چنانچہ جب حضرت مولانا ہردوئی اپنی جماعت دورہ حدیث شریف میں سب سے امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے تو حضرت شیخ نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ”بذل المجہود“ کا مکمل سیٹ بھی عنایت فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ”فقہ الاسلام نمبر“ کی طرح ”محی السنۃ نمبر“ کو بھی قبولیت و مقبولیت سے نوازے اور اس نمبر کو حضرت محی السنۃ کی تعلیمات کے فروغ کا بہترین ذریعہ بنائے۔

خصوصی اشاعت کیلئے ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے۔ والسلام

حبیب اللہ مظاہری

مدینہ منورہ زادہا اللہ شرفاً

۱۵/جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی مدظلہ

شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ کھروڈ گجرات

گرامی قدر حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم، ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور کے توسط سے ہمیں یہ خوش خبر پہنچی کہ قدوۃ الصالحین شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب (نور اللہ مرقدہ) کی شخصیت پر آپ حضرات کام کر رہے ہیں اور حضرت والا ذات ستودہ کی زندگی کے اہم اور خاص خاص گوشے جلد از جلد منظر عام پر لانے کی سعی بلیغ فرما رہے ہیں۔

اولاً میں تمام مخلص کارکنان (جو اس کام میں بھی کسی بھی طرح شریک ہیں) کو از تہہ دل مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی اہم اور ضروری کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ اسے مبارک فرمائے۔
جو حضرات حضرت والا کی صحبت اور مقاربت میں رہ چکے ہیں وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت والا کی زندگی کے ہر ہر لمحے سے دریائے شوق اور حب رسول علیہ السلام میں اگر تلاطم نہیں تو تموج ضرور پیدا ہو جاتا تھا اور یہ کوئی معمولی بات بات اور کوئی ارزاں اور حقیر یافت نہیں، اس کے بغیر دل ویران اور زندگی سونی ہے اور اگر کوئی طویل وقت اس لذت و عزت کے بغیر گزر جائے تو وہ عمر شمار ہونے کے قابل نہیں۔ امیر خسرو نے اسی حقیقت کو اپنے خاص انداز میں بیان فرمایا ہے کہ

ناخوش آں وقتے کہ بر زندہ دلاں بے عشق رفت

ضائع آں روزے کہ بر مستان بہ ہشیاری گذشت

ایسی مغنم اور نادرہ روزگار شخصیت پر قلم اٹھانا حقیقت میں علماء امت کی طرف سے ایک فریضے کو ادا کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حد شرف قبول عطا فرمائے اور اس کے فیض کو عام اور تمام فرمائے اور ان مضامین سے امت کو زیادہ سے استفادہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے آمین۔

فقط والسلام

محمد حنیف لوہاروی

مولانا محمد حنیف لوہاروی

جامعہ قاسمیہ عربیہ کھروڈ ضلع بھروچ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دیولوی مدظلہ، ناظم جامعہ علوم القرآن جمبوسر، بھروچ (گجرات)

مکرم و محترم جناب مولانا محمد سعیدی صاحب مدظلہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کا خصوصی شمارہ ”محی السنۃ نمبر“ شائع فرما رہے ہیں، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحبؒ کی پوری زندگی اتباع سنت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اشاعت اسلام میں صرف ہوئی، آپ کی ذات سے پوری ملت اسلامیہ کو عمومی نفع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔

آپؒ کی ذات گرامی کو سنوارنے اور نکھارنے میں یوں تو دیگر اہل اللہ کی کرم فرمائیاں شامل حال تھیں ہی لیکن فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ کی تربیت کا خصوصی دخل تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت مفتی صاحبؒ مولانا ابرار الحق صاحبؒ کو اپنا بیٹا فرماتے تھے، بلکہ بعض مجالس میں فرمایا کہ ”اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ ”کیا لائے ہو؟ تو مولانا ابرار الحق صاحب کو پیش کر دوں گا“

قرآن کریم کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی پوری رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جائے اس پہلو پر حضرت محی السنۃؒ کی بھرپور توجہ رہی ہے، علاقہ گجرات میں ان کی تعلیم و تربیت کا خاص طور پر جگہ جگہ نظر آتا ہے، الحمد للہ یہاں مدرسہ علوم القرآن میں بھی نورانی قاعدہ کی تعلیم حضرت محی السنۃؒ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی نظر آتا ہے۔

مظاہر علوم وقف حضرت علیہ الرحمۃ کی مادر علمی ہے اس کی طرف سے خصوصی شمارہ کی اشاعت پر آپ حضرات مبارک باد کے مستحق ہیں۔

اللہ تعالیٰ محی السنۃ نمبر کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو اس خدمت کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اس ”خصوصی نمبر“ کو ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کی مقبولیت کا ذریعہ بنائے۔

(الحدید علیہ السلام)

العبد احمد دیولوی

خادم جامعہ علوم القرآن جمبوسر، بھروچ، گجرات

۱۷ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی محدث دارالعلوم کراچی، سابق چیف جسٹس (پاکستان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گرامی قدر مکرم جناب مولانا محمد سعیدی صاحب مدظلکم العالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آنجناب کا گرامی نامہ باعث مسرت و افتخار ہوا اور یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ آپ ماہنامہ ”آئینہ مظاہر علوم“ کا ایک ”خصوصی نمبر“ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب قدس سرہ کے تذکرے کے لئے شائع فرما رہے ہیں۔

حضرت کا وجود اس آخری دور میں پوری امت کے لئے ایک عظیم سرمایہ تھا، حضرت کی تعلیمات و ہدایات کا فیض بحمد اللہ دنیا بھر میں پھیلا ہے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے آخری خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے دم سے خانقاہ اشرفی کا نور پوری امت کے لئے باعث طمانینت تھا اور آپ کا سانچہ ارتحال امت کے لئے ایک عظیم حادثہ ہے لیکن یہ حضرات دنیا سے جانے سے قبل اپنے جو فیوض چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کیلئے بڑا ڈھارس کا سامان ہوتے ہیں اور امت کو ان فیوض سے متعارف کرانے کا ہر اقدام امت کے لئے ایک نعمت ہے لہذا امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خصوصی نمبر اس ضرورت کو بحسن و خوبی پورا کرے گا۔

میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مبارک مقصد میں کامیاب فرمائیں، اس راہ کی مشکلات کو دور فرمائیں اور اس اشاعت کو دین کے صحیح مزاج و مذاق کی تشریح و تفسیر کرنے کی سعادت عطا فرمائیں، آمین۔

بندہ بوجہ اس وقت کوئی مفصل مضمون لکھنے سے قاصر ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ چند سطور بطور پیغام شائع فرما سکتے

ہیں، جزاکم اللہ تعالیٰ خیراً۔ والسلام

بندہ
محمد تقی عثمانی

۱۴۲۳/۶/۲۰ھ

”حضرت محی السنۃ نہ صرف میرے محسن و مربی اور پیر مغاں تھے بلکہ میری ہر الجھن کو سلجھانے والے، ہر درد و کرب کا ادراک کر کے اس کا علاج بتانے والے اور دین و شریعت کے مطابق آداب زندگی سکھانے والے تھے، اب کس کے پاس جائیں؟ کس سے قرآن کریم کی تعلیم کا مطلب جانیں؟ کس سے لہجہ داؤدی سیکھیں؟ کس سے زہد و تقویٰ کی عملی مشق سیکھیں؟ کس سے امت کے غم میں تڑپنا سیکھیں؟ علاج بتانے والے، درد بانٹنے والے اور امت کے غم میں تڑپنے والے خود ہی تڑپا کر چلے گئے، ایسا خلاء پیدا کر کے چلے گئے جس کا پڑھنا بظاہر بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے۔

روحانیت کی وہ فضا جو ان کے دم سے قائم تھی، تقویٰ و طہارت کی وہ مجلس جو ان کے زہد و عمل سے روشن تھی، شوق عبادت کی وہ کرن جو ان کے روشن چہرے سے پھوٹی تھی، اخلاص و للہیت کی وہ ضیاء باریاں جو ان کی زندگی کا حصہ تھیں، وہ یک لخت مدہم پڑ چکی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پوری دنیا اجڑ چکی ہے، ایک عہد کا خاتمہ ہو چکا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بزم اشرف کے اس روشن چراغ کے گل ہونے کے ساتھ ہی ایک عہد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حق اپنے اکابر کے پر تو اور نمونہ تھے، علمیت، عقلیت اور روحانیت کا وہ امتزاج جو ان کی شخصیت کا امتیازی وصف تھا، جہاں اکابر و اسلاف کی یادیں تازہ ہو جاتیں اور مقناطیس کے مانند اپنی طرف کھینچتی تھیں“ (مفتی محمد میاں قاسمی بریلی)

شخصی نقوش

اے برار الحق چہ احساں کردہ

ماہ جانم را چہ تاباں کردہ

مولانا حکیم محمد اختر پربتاپ گڑھی (کراچی)

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق حق

حضرت حکیم محمد کلیم اللہ صاحب (جانشین و داماد محی السنۃ)

آپ کا نام نامی ”ابرار الحق“ تھا، والد ماجد محمود الحق صاحب تھے، جن کا شمار ہردوئی کے مشہور و معروف و کیلوں میں ہوتا تھا اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ سے مجاز صحبت تھے۔

آپ کی ولادت ۲۰ دسمبر ۱۹۲۰ء کو ہوئی، تاحیات ہردوئی میں قیام رہا، حضرت والا محی السنۃؒ کی زندگی از ابتدا پابند شریعت تھی، آپ نے ۲۱ سال کی عمر میں حضرت مولانا تھانویؒ سے مجاز بیعت و خلافت کا شرف حاصل کیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ کا آپ کے متعلق ارشاد ہے کہ ”آپ طالب علمی کے زمانے سے صاحب نسبت تھے“

حضرت محی السنۃؒ نے ۱۹۴۲ء میں اشرف المدارس کا سنگ بنیاد رکھا، جمعہ کے دن مسجد میں اعلان کروادیا کہ

”مدرسہ کا آغاز ہو رہا ہے جو حضرات اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں وہ بھیجیں ان پر کوئی مالی بار نہیں پڑے گا“

پہلے ہی دن مسجد کے صحن میں چار پائی ڈلوادی، ہردوئی کے دو طالب علم شروع دن میں ہی آئے، اس طرح سے مدرسہ کا آغاز ہوا جو تادم تحریر جاری ہے۔

دعوت الحق کا قیام ۱۹۵۰ء کو ہردوئی میں عمل میں آیا، ۱۹۵۳ء میں آپ نے مکاتب کا اجراء فرمایا، ذی قعدہ ۱۳۷۳ھ کو پہلا مکتب ”اسمی“ اعظم پور میں قائم کیا، وہاں کے پہلے مدرس ٹیٹھی احمد صدیق تھے جو موضع رسول پور آٹھ میں بھی کام کرتے تھے۔

ضلع ہردوئی کی چاروں تحصیلوں میں کل ۴۴ مکاتب ہیں، دیگر صوبہ جات میں ۲۷ ہیں اور تارک و فات حضرت محی السنۃؒ کے ۹۶ مکاتب زیر نگرانی تھے۔

محی السنۃؒ حضرت حکیم الامت تھانویؒ سے مجاز بیعت و خلافت تھے، پیر و مرشد کی وفات کے بعد خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ سے وابستہ رہے، ان کے بعد شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ سے انتساب بیعت کیا، پھر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ سے تعلق رہا، ان کے وصال کے بعد مولانا محمد احمد صاحب پر تاب گڑھی سے فیض اٹھاتے رہے، ان کے یہاں بہت اہتمام سے جاتے تھے۔

حضرت محی السنۃؒ کی پوری زندگی نمونہ اسلاف تھی، سادگی، بے ساختگی، اصلاح امت کی فکر، سیاست اور کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی ربط و تعلق نہ تھا، ہر خاص و عام سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے ہر اس شخص کا درد دل میں رکھتے جس کو تکلیف و پریشانی ہو، خاص بات یہ تھی کہ پریشان و مضطرب شخص بھی حضرت سے مل کر قلبی سکون پاتا تھا، اس کی پریشانی کے حل کی صورتیں نکلتی تھیں، پر تکلف غذا نہیں پسند فرماتے تھے، ہر چیز میں نظم پسند فرماتے تھے، خلاف اصول کاموں کو برداشت نہیں فرماتے

تھے، خلاف شریعت بات پر بروقت اور برجستہ و بر موقع نکیر فرماتے تھے، اس میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے، رضائے الہی کا جذبہ ہر وقت پیش نظر رہتا تھا، اصلاح معاشرہ، سنت نبوی ﷺ کی ترویج و اشاعت، دینی تعلیم کا فروغ، قرآن شریف کی عظمت و محبت ساری امت کے دلوں میں پیدا کرنے، سنت کے مطابق تلاوت کرنے کی اہمیت دلانے میں پوری حیات صرف فرمادی۔ اکابرین و اسلاف سے ملاقات کا اہتمام فرماتے تھے، بیماروں کی عیادت کے لئے ہدایت فرماتے تھے چنانچہ خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں کی عیادت کے لئے دوبار تشریف لے گئے جس پر حضرت والا نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔

حضرت مولانا علی میاں کے بعد حضرت مولانا رابع صاحب ندوی سے بیحد محبت و عقیدت فرماتے تھے خاص طور پر جب حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر کا انتخاب ہو رہا تھا تو حضرت محی السنۃ نے بورڈ کے لئے اور مولانا رابع صاحب کیلئے دعائیں کیں تھیں، نیز کئی مرتبہ حضرت محی السنۃ نے مولانا رابع صاحب کو اپنے مدرسہ اشرف المدارس کے جلسے میں مدعو فرمایا اور تقریر کروائی۔

حضرت محی السنۃ کا جب بھی لکھنؤ سے علی گڑھ بمبئی جانا ہوتا تھا تو حضرت محی السنۃ کے سامنے ندوہ کی بات رکھی جاتی تھی تو حضرت والا نہایت خوشی سے قبول فرمالیتے تھے اور جب بھی ندوہ تشریف لے جاتے تو پہلے ہی بذریعہ فون حافظ مصباح الدین سے اطلاع کرواتے پھر ندوہ جا کر طلبہ و اساتذہ سے اصلاحی و تربیتی خطاب فرماتے۔ حضرت مولانا رابع ندوی بھی بغرض ملاقات و دعا ہر دوئی آیا کرتے تھے اور حضرت والا کے تمام اہل خانہ حضرت مولانا علی میاں ندوی کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، نیز مولانا رابع صاحب بھی حضرت محی السنۃ کو اپنا رہبر و سرپرست گردانتے تھے، فرد خانہ کی حیثیت سے آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔

حضرت محی السنۃ کے دو طرح کے خلفاء ہیں (۱) مجازین بیعت (۲) مجازین صحبت۔ مجازین بیعت کی تعداد ۱۰۳ ہے اور مجازین صحبت ۳۶ ہیں۔ مجازین بیعت ہندستان میں ۶۰ پاکستان میں ۶، انگلینڈ میں ۱، امریکہ میں ۱، افریقہ میں ۳، سعودی عرب میں ۵، اور بنگلہ دیش میں ۲۷ ہیں جن میں حکیم محمد اختر صاحب (کراچی) مفتی عبدالرحمن صاحب (بنگلہ دیش) مولوی ایوب صاحب (انگلینڈ) مولوی یحییٰ بھام صاحب (افریقہ) مولوی سلیمان صاحب (ڈھانچی) عبدالحق صاحب ڈیپائی (افریقہ) جدہ میں مولانا عبدالرحمن حیدر آبادی اور انوار الحق صاحب اور اعجاز صاحب حیدر آبادی مدینہ طیبہ میں جناب منصور علی خان صاحب اور مکہ مکرمہ میں جناب خلیق اللہ صاحب ہیں اور بھی دیگر خلفاء ہیں جن کا ذکر اس مختصر تحریر میں اختصار کے پیش نظر ترک کر دیا گیا ہے۔

حضرت والا کے کل پانچ بھائی اور ایک بہن تھیں، دو بھائی حیات ہیں ایک پاکستان میں اور ایک علی گڑھ میں حضرت کی اہلیہ محترمہ و دختر نیک صالحہ حیات ہیں، حضرت والا کے ۳ نواسے اور ۳ نوایاں ہیں جن میں حضرت کے نواسے علیم الحق سلمہ مجاز بیعت ہیں، حضرت کے صاحب زادے حافظ اشرف الحق ۲۸ سال کی عمر میں ۱۹۷۵ء میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے آپ نہایت متقی و پرہیزگار و زریک تھے۔ حضرت والا نے اخیر وقت میں مراد آبادی مضمون کی تقسیم و اشاعت کا بہت خاص اہتمام فرمایا اور زبانی بھی اس کی تقسیم کی ترغیب دیتے تھے۔

ذکر ابرار و تذکرۃ ابرار مقدسین

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ

حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ وفات ایک یادگار تاریخی دور کا خاتمہ ہے یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کے آخری خلیفہ تھے، جن کو حق تعالیٰ نے بقیہ ان حکیم الامت ”شوق عبادت“ اور ”ذوق خدمت خلق“ سے نوازا تھا، اول الذکر شوق عبادت کی تکمیل کے لئے حضرت موصوف نے اتباع سنت کے اہتمام کو اپنا یا اور ثانی الذکر ذوق خدمت خلق کے لئے ”تعلیم قرآن“ کو منتخب فرمایا، مخلصانہ عبادت رب کریم کی برکات نے تعلیم قرآن کریم کے طرز مخصوص کو قبولیت عامہ اور قبولیت تامہ عطا فرمائی، چنانچہ جتنے مدارس حضرت مرحوم نے قائم فرمائے، ان سب کا عملی طرہ امتیاز براہ راست معلمین میں اور بواسطہ معلمین، متعلمین میں بیشتر زندگی کے اعمال میں اتباع سنت کا اتمام بنا جس کی آج کے بے لگام دور میں غیر معمولی کامیابی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمال اخلاص کے علاوہ کسی اور چیز کو قرار نہیں دیا جاسکتا، اس لئے ان کے مدارس سے قرآن کریم پڑھ کر نکلنے والوں میں اس اتباع سنت کے ماحول میں وقت گزارنے کی وجہ سے دینی ذوق بہر حال راسخ نظر آتا ہے۔

راقم ناکارہ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے جس زمانہ میں شرف تلمذ حاصل ہوا، اس سے کچھ عرصہ قبل ہی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کو باوجود نو عمری کے خلافت سے نوازا گیا تھا، حضرت حکیم الامت کو دارالعلوم دیوبند کے عہد اول کے حضرات اکابر رحمہم اللہ سے خدمت خلق کے باب میں ذوق عالمگیری حاصل ہوئی تھی کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجۃ اللہ فی الارض حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز سے متوارثا چلی آرہی تھی لیکن حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ خدمت میں، ترتیلۃ تعلیم القرآن کے محدود طریق کو اپنانے کی بظاہر وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت حکیم الامت کے عالمگیر طرز تربیت سے مکمل استفادہ کا مولانا ہر دوئی کو بوجہ نو عمری اور پھر کچھ ہی عرصہ میں بوجہ وفات حکیم الامت، اتنا حصہ ذوق اشرفی سے نہ مل سکا جتنا کثیر و عمیق بصیرت مندانہ حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو، مفتی اعظم فقیہ الامت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کو، حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کو، حضرت مولانا وصی اللہ صاحب الہ آبادی کو، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاور کو، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب

امرتسری کو، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کو، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی کو، حضرت مولانا اور لیس احمد صاحب کاندھلوی کو اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب وغیرہ رحمہم اللہ کو حاصل ہوا اور ان سے عالمگیر فیض پہنچا ان حضرات مذکورین کے پرواز تربیت میں اور طرز خدمت میں حضرت حکیم الامت کی علمی اور عملی اثر فی عالمگیری غیر معمولی طور پر کارفرما نظر آتی ہے، ان حضرات مذکورین کی زیارت کاشرف اور ان کی خدمات میں بار بار حاضری کی سعادت جو میسر آئی وہی احقر نا کارہ کی زندگی کی متاعِ ثمین ہے جہاں پر یہ ہے وہیں اس کے اظہار میں احقر کو ذرہ برابر تامل نہیں ہے کہ۔

تھیدستان قسمت را، چہ سود از رہبر کامل

کہ خضر آب حیواں تشنہ می آرد سکندر را

حضرت حکیم الامت کا غالباً عصر رواں میں شرف تلمذ سے مشرف آخری یہ ہی احقر کشف بردار ہے اور یہی سعادت تلمذ احقر کے لئے کرم ربانی کا محور امید ہے۔

اس ذکر ابرار اور دیگر ابرار مقدسین کے ذکر کی برگزیدگی کا سر منشاء حضرت اقدس حکیم الامت قدس سرہ کا اپنے اکابر رحمہم اللہ سے معتقدانہ عشق و محبت جس بے مثل تاریخی واقعہ سے متعلق ہے، اس بے مثل تاریخی واقعہ کا تذکرہ ہی اس ذکر مبارک کے اختتام کا متقاضی ہے اور وہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ سے مختلف مجالس میں احقر نے سنا لیکن کہیں مطبوعہ تاحال نظر نہیں آیا۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والد ماجد حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ حضرت حکیم الامت سے والہانہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ہر ہفتہ دو ہفتہ بعد تھانہ بھون تشریف لے جایا کرتے تھے، اسی کے مطابق تشریف لے گئے، حضرت حکیم الامت اس وقت مرض الوفات میں تھے، ضعف و نقاہت بھی انتہائی تھی، حضرت والد صاحب نے دوروز تھانہ بھون میں قیام فرمایا تیسرے دن ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس سے جانے کو دل تو قطعاً نہیں چاہتا لیکن کل دارالعلوم میں مجلس شوریٰ ہے اس کی وجہ سے مجبور ہوں، حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ کا جانا بوجہ ذمہ دار ہونے کے ضروری ہے، میرے پاس رہنا ضروری نہیں۔

حضرت حکیم الامت نے یہ فرما کر حضرت والد صاحب کو مزید اپنے قریب بلایا اور ضعف کثیر کے باوجود خود ہاتھ بڑھا کر حضرت والد صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پھر اسے کئی بار چوما، حضرت والد صاحب اس غیر معمولی اور حیرتناک عمل کی وجہ سے فرطِ اندامت سے آبدیدہ ہو گئے اور اظہارِ اندامت کے لئے قوت گویائی نے ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد خود حضرت حکیم الامت نے آبدیدگی کے

ساتھ حضرت والد صاحبؒ کی کیفیت ندامت دیکھ کر فرمایا کہ

”میرے عزیز بیٹے! تمہارا ہاتھ نہیں چوما بلکہ اپنے اس آخری وقت میں اپنے تمام اکابر رحمہم اللہ کے

مبارک ہاتھ چومے سر پر رکھے اور سینے سے لگائے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے تمہاری ذات میں اپنے

تمام بزرگوں کی علمی اور عرفانی نسبتوں کو جمع فرمادیا ہے“

یہ فرماتے ہوئے حضرت حکیم الامتؒ بھی رو رہے تھے، حضرت والد صاحبؒ بھی رو رہے تھے اور دو تین حضرات تیمار دار بھی رو رہے تھے، چند لمحے بعد حضرت حکیم الامتؒ نے دیوبند جانے پر اصرار فرما کر الوداعی مصافحہ فرمایا اور حضرت والد صاحبؒ نے کافی دیر تک حضرت حکیم الامتؒ کے ہاتھوں پر اپنا منہ رکھ کر روتے ہوئے دست بوسی کی اور واپس ہوئے۔

اگلے روز دارالعلوم دیوبند میں مجلس شوریٰ کا اجلاس شروع ہوا، اجلاس کے دوران ہی حضرت حکیم الامتؒ کی وفات حسرت آیات کی اطلاع آئی جس نے دارالعلوم ہی نہیں ملک بھر میں وابستگانِ بارگاہِ اشرفی کو سراپا ماتم بنادیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ارکان شوریٰ نے فوراً اجلاس ملتوی کیا اور سب حضرات بتعداد کثیر طلبہ بلاتا خیر تھانہ بھون روانہ ہو گئے جہاں نماز جنازہ میں بے شمار خلق خدا کے ساتھ شریک جنازہ ہوئے اور بعد تدفین واپسی ہوئی۔



کارِ خیر میں شرکت

اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت محی السنہؒ کے فیوض و تعلیمات کو دور و دور تک پہنچایا جائے تو اس کیلئے آپ اپنی جانب سے فی شمارہ 20 روپے کے حساب سے متعینہ شماروں کی مجموعی رقم دفتر کے نام ارسال فرمادیں۔ آپ کی جانب سے جن حضرات کو شمارے پیش کئے جائیں گے ان کی فہرست بھی آپ کے نام ارسال کر دی جائے گی، نیز جن حضرات کیلئے آپ نشاندہی فرمائیں گے انہیں بھی بھیج دیا جائے گا۔

زرقادون کا پتہ

دفتر آئینہ مظاہر علوم (مظاہر علوم وقف سہارنپور)

فون مدرسہ: 0132-2653018

آسمان

کیسے کیسے

مولانا غلام محمد وستانوی مظاہری رئیس جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں، مہاراشٹر

اس جہان فانی میں کس کو دوام ہے اور کون یہاں باقی رہنے کے لئے آیا ہے، بس رہے نام اللہ کا! یہاں تو سبھی کا وجود بساط عالم پر ایک چراغ شب کی مانند ہے جو اپنی عمر طبعی کے سحر ہونے تک ٹٹماتا رہتا ہے اور پھر اپنی طبیعت سے گل ہوتا نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں گل کر دیا جاتا ہے۔

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات
اُسے ہنس کر گزار یا رو کر گزار دے

تاہم کوئی کوئی ایسا چراغ بجھتا ہے کہ اس سے اٹھنے والا دُھواں اس کے سوز دروں کی علامت ہو جاتا ہے اور باطنی سوز کے متوالے اپنے شوق جنوں کو ہمیز کرنے کی اس سے راہ پا جاتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی بھی بزم اشرف کے ایسے ہی آخری چراغ تھے جو اپنی حیات میں بساط بھر چراغ مصطفوی بن کر شرار بولہبی، رسم و ریتی، بدعات و خرافات اور جاہلیت و مداہنت کے طوفان سے نبرد آزما رہے اور ہر دانِ شوق کو راہ دکھلاتے رہے آج وہ چراغ بجھ گیا مگر اس سے اٹھنے والا دُھواں اس کے سوز دروں کا پتہ دیتا ہے اور باطل کی ظلمتوں سے ٹکرانے والے جیالوں کو دم بھر آگے ہی بڑھتے رہنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے اللہ پاک ایسے چراغ سے چراغ جلاتا رہے۔ آمین۔

۱۷ مئی ۲۰۰۵ء مطابق ۹ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ کی ابتدائی شب ہے، مغرب، عشاء کا درمیانی وقت ہے بلکہ عشاء کی اذان ہو چاہتی ہے کہ یکا یک صحن جامعہ میں فون کی بیل بجتی ہے اور اوائل شب کی یہ ظاہری تاریکی ایک معنوی اور روحانی تاریکی کا پیغام لاتی ہے پورے جامعہ برادری میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ جاتی ہے اور چہار دانگ عالم کا سارا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔

”مدرسہ عمر بن خطاب گنج کھیرا“ کے سکریٹری عزیزم صالح بھائی بندہ ناچیز راقم الحروف کو فون پر ایک دل خراش اطلاع دیتے ہیں کہ برکت ہندوستان، سرمایہ ملت اسلامیہ، سرتاج اولیاء، جیلانی وقت، جانشین اشرف، سراپا بروصلاح

حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ہر شے بھی فانی، باقی تو صرف خدا کی ذات ہے کل من علیہا فان وہیقی وجہ ربک ذوالجلال والا کرام جب سے دنیا قائم ہے تب سے لے کر اب تک اس آسمان نے نہ جانے کیسے کیسے واقعات کو دیکھا ہوگا اور کتنے مصائب و حادثات کا سامنا کیا ہوگا اور نہ معلوم اس فرش خاکی نے کتنے جبال العلم اپنی آغوش میں چھپائے، کتنے اصحاب سلطنت، اصحاب جاہ و مرتبت گل گیا اور کتنے ہی اصحاب و ثروت کو اپنے سینہ گیتی میں دفن کر لیا، جن کی تاریخ طویل بھی ہے اور تلخ و شیریں بھی۔

مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے

لیکن اسلام کے مزاج اور انسان کے صحیح مذاق کی خاصیت یہ نہیں کہ کون کیسی صورت کا مالک تھا؟ کس منصب پر فائز تھا اور کتنی دولت رکھتا تھا؟ بلکہ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ جانے والا کس سیرت کا حامل تھا؟ اس نے کیسے اخلاق و کردار اپنائے؟ اور اپنے اخلاف کے لئے کیا کیا نشانِ راہ چھوڑے؟ اس لئے ایک سمجھدار انسان کے لئے سیرتِ نبیؐ، احوالِ صحابہ اور سوانحِ اولیاء اس حیثیت سے مشعلِ راہ ہوتے ہیں کہ وہ علومِ نبویہ کو عمل کے قالب میں ڈھال کر افراد امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

جانشینِ اشرف علی حضرت ہردوئی جنہیں آج رحمۃ اللہ علیہ لکھنے پر قلم مجبور ہے، اصحابِ قلوب اور انفاسِ قدسیہ کے سلسلۃ الذہب کی وہ قیمتی کڑی ہیں، جن کی ولادت ۹ ربیع الثانی ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۲۰ء بروز پیر شہر ہردوئی میں ہوئی، سلسلۃ نسب شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ سے جا ملتا ہے اور سلسلۃ روحانی میں آپ کے والد ماجد حضرت محمود الحق صاحبِ قدس سرہ، حضرت تھانویؒ کے مجازِ صحبت تھے غرض آپ وطنِ ہردوئی، نسباً حقی علماء مظاہری اور مشرباً تھانوی تھے۔

ابھی عمر عزیز کی آٹھ ہی بہاریں دیکھی تھیں کہ حفظِ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور ۱۳۵۵ھ میں ہندوستان کی عظیم بانیض دینی درس گاہ ”مظاہر علوم وقف“ سے فنونِ متداولہ کی تکمیل فرمائی اور اپنے جبالِ العلم والعمل اساتذہ سے خوب خوب اکتسابِ فیض کیا اور بہت بہت دعائیں لیں، زمانہ طالب علمی ہی میں راہِ سلوک طے کرنے کیلئے شاہِ راہِ تھانویؒ سے وابستہ ہو چکے تھے اور حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی نظر جو ہر شناس نے انہیں نورِ فراست سے کم عمری ہی میں منور فرما کر بہ زمانہ یتیم ”فتح پور“ ۱۳۶۱ھ میں اجازتِ بیعت دے کر خلعتِ خلافت سے سرفراز فرما دیا، حضرت ہردوئی کو حضرت تھانویؒ کی کیمیا اثرِ نظر نے ایسا بنا دیا کہ حضرت مرحومؒ جہاں اکابر کی نظروں کے تارے تھے، وہیں ہم عمروں کے دل کے دلارے اور اصاغر کے حق میں با اصول معلم و رہنما تھے، بقول حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کہ ”حضرت ابرار اپنے وقت کے اسمعیل شہید ہیں“ اور بقول حضرت مولانا علی

میاں ندوی کہ ”حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بڑے صاحب عزیمت داعی الی اللہ شیخ ہیں۔“

حضرت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کے شاگرد رشید اور تلمیذ بافیض تھے، ایک مرتبہ کچھ احباب نے حضرت مفتی صاحب درخواست کی کہ حضرت ہر دو کی صحت اذان، صحت اقامت اور صحت قرآن کے سلسلہ میں شدت کے ساتھ بہت اصولی گرفت فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ تخفیف کی فہمائش کریں تو بہتر ہوگا اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی! سب ٹھیک ہے مگر ان کی پیشانی پر تقویٰ کا ایسا نور جھلکتا ہے کہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، کسی نے کہا اور بجا کہا کہ ۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

حقیقت ہے کہ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکابر کی توجہ، عشق مع القرآن اور اتباع سنت کے صدقہ میں با اصول زندگی، بارونق بود و باش اور بارعب و با وجاہت چہرے کے ساتھ ساتھ با اثر ملفوظات و مواعظ سے ایسا حصہ وافر عطا فرمایا تھا کہ ہر وقت علم و حکمت کے چشمے آپ کی لسان ترجمان رسالت سے جاری رہتے اور اس طرح حضرت مولانا کی حیات، قرآن مقدس کی آیت ”وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“ کا آئینہ دار تھی، چنانچہ حضرت کے ملفوظات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو حرف بہ حرف اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

حاصل یہ کہ اللہ نے آپ کو با فیض شخصیت بنایا تھا، ایسی شخصیت کا دنیا سے اٹھ جانا حقیقتاً ”موت العالم موت العالم“ کا مصداق ہے بلکہ بطور نیک فالی کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرحوم اس دور کے مجدد اور محی السنۃ تھے، نہ معلوم کتنی مردہ سنتوں کو زندہ کیا اور اللہ پاک سے امید ہے کل محشر میں یہ فوائے حدیث ”مَن تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ امْتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ“ کے مطابق ان شاء اللہ شہداء حکمی کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے۔

جامعہ میں اطلاع ہوتے ہی طلبہ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا اور بندہ ناچیز نے ہر طالب علم کو ایک ایک قرآن پڑھ کے ایصالِ ثواب کی تلقین کی اور پھر بڑے صبر و ضبط کے ساتھ مرحوم کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر خیر کیا نیز بڑی دل سوزی اور تضرع سے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعا مانگی، اللہ پاک بال بال مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آمین۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے

سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

شفقتیں ان کی یاد رہیں گی

مفتی عبداللہ مظاہری، مظہر سعادت ہانسوٹ، گجرات

”کل نفس ذائقۃ الموت“ ایک اہل حقیقت اور فیصلہ خداوندی ہے، دنیا میں جو بھی آیا جانے کیلئے آیا ہے، باقی رہنے والا وہ رب ذوالجلال ہے جو موت و حیات کا خالق اور قادر و مختار ہے، لیکن کچھ جانے والے اپنے کارنامے، تعلیمات، ارشادات اور جاں سوزی اور دیدہ ورنی کے ایسے نقوش ثبت کر جاتے ہیں کہ وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں جن کے سانچے ارتحال پر دل سے اٹھنے والی ٹھیسیں دیر اور دور تک محسوس کی جاتی ہیں میرے شیخ سید سر و مرشد، مخدوم عالم، محی السنۃ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حق رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ کا سانچہ ارتحال بھی اس نوع کا ہے۔ ۱۰ اور اربع الثانی کے درمیانی شب کو جوں ہی اطلاع ملی کہ حضرت نہیں رہے قلب پر ایک بجلی گری لیکن ظاہر ہے کہ تقدیر کے فیصلے کو بدلنا نہیں جاسکتا، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔

حضرت شاہ صاحب کو اللہ پاک نے خصوصی کمالات اور امتیازات سے نوازا تھا اللہ پاک نے آپ سے فتنوں کے اس دور میں اتباع سنت، صحت کے ساتھ تعلیمات قرآنی کی اشاعت اور اصلاح ظاہر و باطن کے حوالہ سے تجدیدی کام لیا ہے، اتباع سنت آپ کی زندگی کا ایسا نمایاں وصف تھا کہ شخصیت کے تصور کے ساتھ ہی لازمی طور پر اس وصف کا بھی تصور ہوتا بظاہر چھوٹی چھوٹی سنتوں کے احیاء اور رواج دینے کے لئے آپ نے جس طرح جاں سوزی کے ساتھ قابل قدر خدمات انجام دی ہیں وہ یقیناً آپ کی زندگی کا نمایاں باب اور ذخیرہ آخرت ہے، سنت سے واقفیت اور ان پر عمل کیلئے آپ نے آسان عملی شکلیں امت کے سامنے رکھیں، ایک منٹ کا مدرسہ، اذکار مسنونہ وغیرہ اس سلسلہ میں الحمد للہ اہم رول ادا کیا، مزاج میں فطری طور سے نظم و ضبط کی پابندی، ڈسپلن نے نظافت و نفاست کا اعلیٰ ذوق شروع سے بخوبی نمایاں تھا، عین عالم شباب میں ہی مرشد کامل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی نگاہ عارفانہ اور نظر کیمیا اثر نے آپ کی خداداد صلاحیتوں کو تازہ لیا اور خلعت خلافت سے نوازا کر اپنے اعتماد کی مہر لگا دی۔

حضرت مولانا نے ۱۳۵۶ھ میں مظاہر علوم وقف سہارنپور سے سند فراغ حاصل کیا، اکابر و اساتذہ عظام کے ہمیشہ منظور نظر رہے، حضرت نے دنیا سے بے رغبتی اور محض آخرت کو پیش نظر رکھ کر پوری استقامت کے ساتھ اپنا

اصلاحی مشن جاری رکھا اور ان جلیل القدر مصلحین و علماء ربانین کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی تھے جن کے انھاس قدسہ کے اس عالم رنگ و بو میں توحید و سنت کے چراغ چلتے ہیں، مصلحتوں کی دھیر چادروں کی آڑ میں نبی عنہم کے جیسے فریضہ سے امت کی غفلت اور بے حسی کا حضرت والا کو سخت قلق اور افسوس تھا، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمیشہ تلقین کی اور زندگی بھر عملاً اس کو برتتے رہے۔

حضرت والا کی زندگی کا ایک نمایاں باب تصحیح قرآن کے حوالہ سے ہونے والی انتھک اور بے پناہ کوششیں ہیں حضرت نے اس کو ایک مشن اور تحریکی انداز میں بڑے پیمانے پر انجام دیا جس میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کو ہر کام میں ایک خاص قسم کی بصیرت عطا فرمائی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اس کام کو نجلی سطح سے شروع فرمایا اور اس تصور کو ختم فرما دیا کہ صرف رسمی قاری صاحب ہی قرآن کریم صحیح پڑھ سکتے ہیں اور عام لوگوں کے لئے یہ مشکل ہے نہایت آسان اور سہل انداز میں نورانی قاعدہ کی اشاعت نو کے ذریعہ تصحیح کی جو ایک مہم چل پڑی ہے اس میں شبہ نہیں کہ تجوید و قرأت کے بڑے بڑے ادارے مل کر بھی شاید یہ کامیابی حاصل نہ کر پاتے اور چونکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا واجبات میں سے ہے اس لئے خواہ کوئی شیخ طریقت ہو یا شیخ الحدیث سب کو اس جانب متوجہ فرماتے۔

ہمارے ملک میں جہاں کہ طبقہ علماء و خواص میں بھی مقدس کلام ربانی کو فارسی لب و لہجہ میں پڑھا جاتا ہو اس طرح کی کوششیں یقیناً حد درجہ قابل تقلید بلکہ واجب التقلید ہیں۔

حضرت والا قرآن مقدس کی صرف اس صوتی درستگی و ادائیگی پر ہی توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ قرآن مقدس کی عظمت اور وقعت، عامۃ الناس طلبہ اور اساتذہ کے قلوب میں راسخ ہو اس کی بھی نہایت اہتمام کے ساتھ کوشش فرماتے تھے، اسباب زوال امت میں سے ایک سبب اسے بھی قرار دیتے، حقیقت یہ ہے کہ خواہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں کہ کلام اللہ کی ظاہر و باطن ہمارے دلوں میں جو عظمت ہونی چاہیے وہ کب کی رخصت ہو چکی ہے۔

حضرت والا کی اصول پسندی، حق گوئی اور حقیقی قدر شناسی، خلق خدا کی ایذا رسانی سے حد درجہ اجتناب کی کوششوں اور اپنے مرشد کامل کی طرح صحیح اصلاحی معاشرتی اصولوں کے برتنے کو عام حضرات نے سختی و درشتی کا نام دے رکھا تھا حالانکہ حضرت والا حد درجہ شفیق اور رقیق القلب تھے کسی ادنیٰ تکلیف سے بھی بے چین ہو جاتے تھے مہمان کے اکرام میں معمولی کوتاہی ناقابل برداشت جرم تھا، آپ کی نرم خوئی، خوش اخلاقی، وسعت ظرفی، خوردنوازی کا اندازہ صحیح معنوں میں انہی حضرات کو ہو سکتا ہے جنہیں آپ کی ملاقات اور صحبت رہی اور آپ کے تعلقات سے ان کی معلومات محض سننے سنانے تک محدود نہیں، ہم چھوٹوں پر اس طرح شفقت کا معاملہ فرماتے کہ بعض اوقات ندامت سے گردنیں جھک جاتی تھیں۔

آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف یوں تو طالب علمی سے ہی حاصل رہا لیکن ۱۴۰۵ھ میں جب جامعہ مظہر سعادت کا داعیہ پیدا ہوا تو بطور خاص رائے عالی معلوم کرنے اور دعاؤں کے اصول کے لئے خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضرت والا نے غیر معمولی ذرہ نوازی فرمائی، اپنی دعاؤں اور تائید سے نوازا اور عشاء کے بعد کافی دیر تک مظاہر علوم سہارنپور کے قضیہ نامرضیہ کے تعلق سے جو تازہ تازہ پیش آیا تھا گفتگو فرماتے رہے۔

جامعہ مظہر سعادت کے قیام کے بعد حضرت والا کی ترتیب پر نورانی قاعدہ کی ترتیب شروع ہوئی اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی رہی، ۱۹۹۸ء میں صدیق ملت حبیب اللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ وسعۃ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ہی سے جامعہ کے اساتذہ و طلباء کا اصلاحی تعلق قائم ہوا جو بفضلہ تعالیٰ اخیر تک باقی رہا، عرصہ سے میری اور اساتذہ و طلبہ کی دلی خواہش تھی کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اہالیان جامعہ آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوں چنانچہ ۳ رزی الحجہ ۱۴۲۲ھ ممبئی سے جہاں حضرت والا ان دنوں مقیم تھے، تشریف لائے، آپ کے ہمراہ نواسہ محترم اور دیگر متوسلین و خدام تھے، حضرت والا میں چونکہ ضعف و نقاہت تھی اور ٹرین جس سے تشریف لارہے تھے وہ بھروچ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک کے بجائے تین پر آیا کرتی ہے لیکن اللہ پاک نے حضرت کی برکت سے یہ مسئلہ بھی حل فرمادیا اور ذمہ داروں سے بات کر کے اس دن خصوصی حکم کے تحت ٹرین پلیٹ فارم نمبر ایک پر رُکی۔

اسٹیشن پر مختصر خطاب ہوا، جامعہ تشریف لائے، شام سے صبح تک قیام فرمایا اس دوران مغرب تک تفصیلاً اور فجر کے بعد مختصر خطاب ہوا جس میں سنتوں کی عظمت اور اساتذہ و طلباء کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ فرمایا، مدرسہ کا معائنہ کر کے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔

یہ حضرت کا آخری سفر گجرات تھا، اس کے بعد بھی حضرت والا کی خدمت اقدس میں حاضری ہوتی رہی، ضعف و نقاہت کا سلسلہ یوں تو عرصہ سے تھے تاہم جب ۹-۱۰ ربیع الثانی کی شب کو جب مجھے یہ روح فرسا اطلاع دی گئی تو سکتہ میں آگیا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، قلب و دماغ پر خاصا اثر پڑا کوشش کی گئی کہ کسی طرح حضرت والا کی تدفین میں شرکت ہو جائے، مگر بوجہ بعد مسافت ممکن نہ ہو سکا۔ ۱۵ بجے شام کو ہر دوئی حاضری ہوئی، حضرت والا کی قبر پر حاضری دی گئی، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب اور دیگر اقارب اور حضرت مولانا امیر حسن صاحب مدظلہ کی خدمت میں تعزیتی کلمات کہے گئے، اشرف المدارس کا نظام معمول کے مطابق نظر آیا لیکن چمن کی اصل زینت اور روح ہی غائب ہو جائے تو اس کا احساس تو یقیناً ہوگا۔

دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت والا کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اور ہمیں بھی اتباع سنت کی توفیق و معرفت الہی کا حصہ وافر عطا کرے (آمین)

مسلمانوں کے روحانی سفیر و معالج

مولانا اسرار الحق قاسمی

محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا شمار کرنا تو ممکن نہیں مگر نو نہالان ہند کیلئے ”نورانی قاعدہ“ کی تصحیح اور اس کو عام آدمیوں تک پہنچانے کی خدمت ملت اسلامیہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی جس سے بچوں کیلئے صحیح قرآن مجید پڑھنا آسان ہو گیا۔ شاہ صاحب کا سانحہ ارتحال بلاشبہ ملت اسلامیہ کیلئے ناقابل تلافی نقصان ہے ان کی وفات ایک عہد کا خاتمہ ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی سیرت پاک کا عملی نمونہ تھی، حضرت ہر دوئی پابند شریعت، متبع سنت، حق گو، دین کے داعی، مبلغ اور بہترین معلم، مربی و مصلح تھے، ان کی دینی و علمی اور روحانی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا وہ اتباع سنت میں اسلاف کا نمونہ تھے، آپ نے قرآن کریم کی تعلیم و تحفیظ خاص طور سے نورانی قاعدہ پر غیر معمولی محنت و توجہ فرمائی اور ملک گیر سطح سے اوپر اٹھ کر اپنے مجاہدین و مخلصین کے ذریعہ عالمی سطح پر تعلیم قرآن کے عظیم الشان مراکز قائم کئے جانے کی عملی کوششیں فرمائیں جہاں آج الحمد للہ صحیح بخاری و تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔

ان کے رشد و ہدایت سے لاکھوں افراد فیضیاب ہوئے، وہ ایشیائی، یورپی اور افریقی ممالک میں ہندوستان کے روحانی سفیر اور مسلمانوں کے روحانی معالج تھے ان کے انتقال سے ملت اسلامیہ ایک عالم برحق اور مرشد کامل سے محروم ہو گئی ہے۔

محی السنۃ کی وفات سے عالم اسلام کی کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو غم نہ ہوئی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اللہ والوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے، ہر کار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے وہ حصے روتے ہیں جہاں پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور عرش کے وہ حصے بھی روتے ہیں جو ان کے اعمال کے گواہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب پچاس سے زیادہ مرتبہ حج بیت اللہ اور عمرہ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا اور پچیس سے زائد ممالک میں انہوں نے اسلام کی اشاعت کو فروغ دیا وہ دین کا ایسا دریا تھے کہ جس نے ہمیشہ دین کو سیراب اور ملت اسلامیہ کو فیض یاب کیا۔

حضرت مولانا ہر دوئی دینی حمیت رکھنے والے شخص تھے اس لئے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور سنت کی احیاء کے لئے ہمیشہ سرگرم رہتے تھے ان کی عظیم المرتبت شخصیت دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی تھی، آپ کو

اسلامی شریعت کو امتیاز حاصل تھا اس کی گواہی ان کی عملی زندگی اور ان کی تصانیف خود دیتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے اتباع سنت کا کام بڑے توازن کے ساتھ انجام دیا، وہ ہمیشہ مثبت انداز میں تربیت فرماتے تھے، گفتگو میں نرمی اور والہانہ کیفیت تھی، ان کی تربیت سے ایمان میں تازگی اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا تھا، ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی تلقین اور خیر کی بات کرتے تھے، خاص طور پر اذان دینے کے طریقہ کی اصلاح اور اس کی تربیت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔

آج سے تقریباً ۷۷ سال قبل حکیم الامت، مجدد امت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے حضرت شاہ صاحب کو خلافت بیعت سے نوازا تھا، آپ سنت رسول کے سچے عاشق تھے، اللہ رب العزت انہیں غریقِ رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔

ہمیں امید ہے کہ ان کے مریدین اور فیض یافتگان مولانا مرحوم کے دینی و تبلیغی مشن کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے جس طرح مرحوم کی زندگی میں یہ کام چل رہا تھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی۔

نادر معلومات

حضرت مولانا فقیر محمد پشادری (م۔ ۱۳۱۲ھ)	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے آخری خلیفہ پاکستان میں
حضرت مولانا ابراہیم صاحب حق (م۔ ۱۳۲۶ھ)	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے آخری خلیفہ ہندوستان میں
حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ دیوبند	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے آخری شاگرد رشید
حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی (م۔ ۱۳۱۷ھ)	حضرت محی السنۃ کے آخری استاذ
حضرت مولانا امیر احمد مظاہری اللیائوی مدظلہ	حضرت تھانویؒ کے آخری دس سالہ امام
حضرت مولانا انعام الرحمن تھانوی مدظلہ	مظاہر علوم میں حضرت تھانویؒ کے آخری صحبت یافتہ
حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی (م۔ ۱۳۱۲ھ)	حضرت محی السنۃ کے آخری مرشد گرامی
حضرت مولانا محمد سعیدی ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور	حضرت محی السنۃ کے آخری مہمان (اہل مدارس میں)
اللہ اللہ اللہ	حضرت محی السنۃ کی زبان سے نکلنے والے آخری کلمات
گورستان ”خطہ صالحین“ ہردوئی	حضرت محی السنۃ کی آخری آرام گاہ

ناصر الدین مظاہری



گزشتہ چند سالوں میں علماء حقہ اس تیزی اور برق رفتاری سے ہم سے جدا ہوئے ہیں جیسے کسی تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ گیا ہو اور یکے بعد دیگرے تسبیح کے سبھی دانے گرنے لگے ہوں۔

یوں تو اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سو وہ جانے ہی کے لئے آیا ہے لیکن بعض کے جانے سے دنیا اطمینان کا سانس لیتی ہے تو بعض کے جانے سے پوری انسانیت پر حزن و غم اور رنج و الم کا سماں طاری ہو جاتا ہے۔

ماضی قریب میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید علی میاں ندویؒ، مجاہد ملت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ، حضرت مولانا سید احمد ہاشمیؒ، فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین مظاہریؒ، حضرت مولانا محمد رضوان القاسمیؒ،

پیر طریقت حضرت مولانا شاہ قاری عبدالرحیم بجنوریؒ، حضرت مولانا قاری شریف احمد گنگوہیؒ اور ملت اسلامیہ ہندیہ کیلئے دھڑکتا دل رکھنے والے جناب ابراہیم سلیمان سیٹھ جیسی ہستیوں کی جدائی پر عالم اسلام سسکیاں ہی لے رہا تھا کہ ایک اور حادثہ فاجعہ پیش آ گیا یعنی مظاہر علوم (وقف) سہارنپور کے ممتاز فاضل و عالم..... سلوک و احسان اور تزکیہ و عرفان کے

ناخدا، علوم آلیہ و عالیہ کے شانور..... حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانویؒ کے کبھی اور وہی علوم کے امین..... دین و ملت کے مخلص، فعال اور جفاکش خدمت گار..... امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں اپنی

مثال آپ..... تقویٰ و طہارت، زہد و قناعت، صفائی و نفاست، نظم و انتظام، اصول پسندی، اتباع سنت، اصلاح و تربیت، وعظ و ارشاد، پند و موعظت اور احقاق حق و ابطال باطل میں ممتاز..... منکرات پر روک ٹوک، اپنے تمام معاصرین میں سب

سے اعلیٰ سب سے برتر..... سیکڑوں دینی مدارس و مکاتب کے بانی و ناظم..... مکاتیب اسلامیہ کے سلسلہ میں سب سے پہلے سب سے آگے..... تجوید و قراءت اور اسلام کی کلیدی و بنیادی تعلیم کیلئے دن کے اجالے اور رات کی تاریکی دونوں میں

فکر مند..... سلوک و احسان، تزکیہ و تجلیہ میں ہمہ دم اور ہمہ وقت کوشاں رہنے والے..... عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن اور سیکڑوں علماء و صلحاء کے پیر و مرشد..... حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق حقؒ بھی گزشتہ ۸ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ مطابق

۱۷ مئی ۲۰۰۵ء بروز منگل رات ۹ بجے عمر عزیز کی ۸۷ بہاریں دیکھ کر مولائے حقیقی سے جا ملے۔

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

ابتدائی حالات :- حضرت محی السنۃ کا آبائی وطن پلوی ہے لیکن آپ کے والد ماجد جناب مولوی محمود الحق حقی صاحب جو حضرت تھانویؒ کے گہرے عقیدت مند اور مجاز صحبت تھے انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ہردوئی کو اپنا مسکن بنایا وہیں ۲۰ دسمبر ۱۹۲۰ء (۱۳۳۹ھ) کو آپؒ کی ولادت ہوئی، آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ سے جاملتا ہے اسی لئے اس خانوادہ کے حضرات برکت کے لئے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ ”حقی“ کی نسبت لگاتے رہے ہیں۔

تعلیم :- حضرت میاں اصغر حسین صاحب دیوبندیؒ نے آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا کر تعلیم کا آغاز کرایا پھر عربی فارسی اور اردو کی تعلیم گھر پر حاصل کی، کچھ عرصہ تک انجمن اسلامیہ ہردوئی میں حضرت مولانا انوار احمد صاحب انجیٹوی مظاہری سے بھی تعلیم حاصل کی، پھر شوال المکرم ۱۳۴۹ھ ۱۹۳۱ء میں دنیائے اسلام کے معروف ادارہ مظاہر علوم (وقف) کا رخ کیا اور یہاں داخلہ لے کر درج ذیل کتب پڑھیں۔

کافیہ، شرح مآۃ عامل، نحو میر، دستور المبتدی، کبریٰ، مفید الطالبین، تیسیر المنطق، قال اقول، ہدایۃ النحو مذکورہ کتابوں کو جس محنت اور دلجمعی کے ساتھ پڑھا اس کا اندازہ مظاہر علوم (وقف) کے تعلیمی ریکارڈ سے ہوتا ہے کہ شروع کی چھ کتابوں میں کل بیس نمبرات میں سے بیس اور بعد کی دو کتابوں میں انیس اور مؤخر الذکر کتاب میں ساڑھے سترہ نمبرات حاصل کئے تھے۔

مدرسہ کے تعلیمی ریکارڈ کے مطابق آپ نے کل ۹ سال تعلیم حاصل کی چنانچہ سن وار کتابوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔
 ۱۹۳۲ء: نفحۃ الیمن۔ قدوری۔ منیۃ النصلی۔ بحث فعل۔ نور الایضاح۔ تہذیب۔ مرقات۔ کافیہ۔ شرح تہذیب
 ۱۹۳۳ء: اصول الشاشی۔ بحث اسم۔ کنز الدقائق، میر قطبی۔ تلخیص المفتاح۔ قطبی تصدیقات
 ۱۹۳۴ء: مختصر المعانی۔ سلم العلوم۔ شرح وقایہ۔ نور الانوار۔ ہدیہ سعیدیہ

۱۹۳۵ء: ہدایہ۔ مشکوٰۃ شریف۔ جلالین شریف۔ مقدمہ مشکوٰۃ، نخبۃ الفکر، رشیدیہ

۱۹۳۶ء: مظاہر علوم کی روداد کے مطابق اس سال بخاری اور نسائی کا امتحان دے کر آپ بیمار ہو گئے، جب کہ مدرسہ کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری، ترمذی اور ابوداؤد کا امتحان دیکر بیمار ہوئے، باقی کتابوں کا امتحان نہ دے سکے، اس لئے اہل مدرسہ نے آپ کے لئے تجویز کیا کہ

”جو کتابیں باقی ہیں ان کی تکمیل ضروری ہے، تمام کتب دورۂ حدیث شریف میں امتحان دینا ہوگا“

چنانچہ ۱۹۳۷ء کو پھر مدرسہ میں داخل ہو کر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی، طحاوی، شمائل ترمذی، موطا امام محمد، موطا امام مالکؒ اور ابن ماجہ شریف پڑھیں۔

اس سال دورہ حدیث شریف میں آپ اول نمبرات سے کامیاب ہوئے اور مبلغ دس روپے نقد اور درج ذیل کتب بطور انعام حاصل کیں۔

انہاء السکن۔ احیاء السنن۔ استدراک الحسن۔ اعلاء السنن۔ اشرف السوانح۔ تشکیل سندات البخاری، مغلفات مرزا۔ ایجاز القواعد۔ سامان عاجز۔ پہاڑہ اردو۔ (دورہ حدیث شریف کے نمبرات کا چارٹ اسی شمارے میں موجود ہے) فراغت کے بعد مزید دو سال تعلیم حاصل کی جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۹۳۸ء: بیضاوی شریف۔ رسم المفتی۔ ترمذی شریف۔ شمائل ترمذی۔ مدارک التنزیل۔ سراجی شریف

۱۹۳۹ء: اقلیدس۔ تصریح۔ متنبی۔ خلاصۃ الحساب۔ صدر۔ شمس بازغہ، توضیح و تلویح۔ شرح چغینبی، سبع شداد۔ عروض المفتاح۔ مسلم الثبوت۔ دیوان حماسہ۔

یہاں تعلیم کے دوران خارج میں بھی ماہر اساتذہ سے تعلیم کے حصول کا مبارک سلسلہ جاری رکھا چنانچہ ایک طرف تجوید و قرأت میں تخصص و امتیاز کے لئے حضرت قاری عبدالحق صاحب امام جامع مسجد سہارنپور کا انتخاب کیا تو دوسری طرف مدرسہ کے دیگر اساتذہ سے بھی خارج اوقات میں خارجی کتب پڑھنے کا شرف حاصل کیا چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ سے الفوز الکبیر، لمعات، سطعات، ہوامع، شمس بازغہ، قاضی مبارک پڑھنے کے علاوہ نصاب کی کتب میں المختصر القدوری، مختصر المعانی (فن ثالث) وغیرہ ساری کتابیں خارج اوقات میں پڑھیں، حضرت مفتی محمود حسنؒ نے مختصر المعانی کا فن ثانی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عبداللطیف صاحبؒ سے پڑھنے کا مشورہ دیا، حضرت مولانا ابراہیم الحقؒ نے حضرت ناظم صاحبؒ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی، حضرت نے فرمایا کہ تہجد کے بعد پڑھا سکتا ہوں، حضرت مولانا ابراہیم الحقؒ نے حضرت مفتی محمود حسنؒ کو حضرت ناظم صاحبؒ کی شرط سے آگاہ کیا، تو حضرت مفتی صاحبؒ نے فرمایا کہ منظور کر لو اور یہ شرط کر لو کہ تہجد کے وقت اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوگی، اس طرح خارج میں حضرت مولانا عبداللطیفؒ سے مختصر المعانی کا باب ثانی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔

۱۹۴۳ء میں جس وقت آپ یہاں تیسری جماعت میں زیر تعلیم تھے آپ کی فطری اور خوابیدہ صلاحیتوں میں کس قدر نکھار پیدا ہو چکا تھا، اس کا اندازہ دارالافتاء مظاہر علوم وقف کے اس ریکارڈ سے ہوتا ہے جہاں آپ کے علمی استفتاء موجود ہیں جو آپ نے مستفتی کی حیثیت سے کئے تھے، چنانچہ بطور ”مشتے نمونہ از خروارے“ ایک سوال جو داڑھی کے دھونے اور مسح سے متعلق ہے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

”کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسح لحدیہ فرض ہے یا غسل لحدیہ ہر دو صورت میں ربلع ہے یا ثلث ہے یا کل؟ یا مسح مایا قی البشرۃ و یا غسلہ اور اس میں اگر اختلاف ہے تو مع ادلہ اور قول مختار کیا ہے تحریر فرمائیں۔

ابراہیم الحق، معلم مدرسہ ہذا ۱۳۵۲/۱۱/۲۵ھ

اہل علم حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس قسم کا علمی تحقیقی اور اختلافی سوال وہی کر سکتا ہے جس کی متعلقہ مسئلہ پر گہری نظر ہو ورنہ داڑھی کا دھونا یا اس پر مسح کرنا رابع، ٹمٹ اور کل کی قید، مسح مایلاقی البشرۃ پر نظر، اختلاف الائمہ مع ادلہ اور قول مختار (مفتی بہ) کا سوال ایک عام شخص اور کم پڑھا لکھا طالب علم نہیں کر سکتا۔

حضرت محی السنۃ کی تعلیمی محنت، خداداد صلاحیت اور اساتذہ کرام کے فیضانِ نظر کی بدولت آپ شروع ہی سے مظاہر علوم میں مخصوص پہچان بنا چکے تھے، اساتذہ اور اربابِ مدرسہ کو ان سے لگاؤ تھا۔

اس علمی استفاء کا محققانہ جواب حضرت مفتی سعید احمد صاحب اجراڑویؒ نے تحریر فرمایا جس پر تائیدی اور توثیقی دستخط استاذ الکلیٰ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عبداللطیف پور قاضویؒ نے ثبت فرمائے۔ جواب درج ذیل ہے۔

”حامداً ومصلياً ومسلماً! غسل لحيہ میں فقہاء احناف کے اقوال مختلف ہیں تقریباً آٹھ اقوال ہیں (۱) مسح کل (۲) مسح ربع (۳) مسح ٹمٹ (۴) مسح مایلاقی البشرۃ (۵) غسل ربع (۶) غسل ٹمٹ (۷) غسل کل (۸) عدم غسل مسح۔ لیکن لحيہ کشف غیر مسترسل میں صحیح اور مفتی بہ روایت یہ ہے کہ تمام کو دھویا جائے علاوہ ازیں تمام روایات مرجوح عنہ ہیں جیسا کہ بحر الرائق، بدائع الصنائع، درمختار میں ہے وغسل جميع اللحية فرض یعنی عملياً ايضاً على المذهب الصحيح المفتى به المرجوح اليه وما عدا هذه الرواية يجب غسله ولا مسحه بل يسن وان الخفيفة التي تری بشرتها يجب غسل ما تحتها۔

لحيہ خفيفہ کا دھونا واجب ہے اور مسترسل کا دھونا منسنون ہے۔

سعید احمد ۲۶ رذی قعدہ ۱۳۵۲ھ

صحیح عبداللطیف عفا اللہ عنہ۔ ۲۷ رذی قعدہ ۱۳۵۲ھ

درس نظامی سے فراغت کے بعد یہیں مظاہر علوم میں معین مدرس ہو گئے اور فارسی کتب کا درس آپ سے متعلق کیا گیا کچھ عرصہ بعد اپنے پیر و مرشد حضرت تھانویؒ کے حکم و ایما پر مدرسہ جامع العلوم کانپور میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے پھر حضرت تھانویؒ کی حسب ایما مدرسہ اسلامیہ فتح پور ہنسوہ پہنچے اور وہاں بھی مختصر عرصہ تعلیمی خدمت انجام دی۔ ۱۳۶۲ھ میں حضرت تھانویؒ کے حکم پر ہردوئی میں مدرسہ اشرف المدارس قائم کر کے طویل زمانہ تک درجات ابتدائی اور اوسط کی تعلیم دیتے رہے اور تاحیات اس مدرسہ کی خدمت انجام دی، اخیر میں تو دورہ حدیث کا باقاعدہ آغاز فرما دیا تھا۔

مظاہر علوم میں دورانِ تعلیم اپنی متواضعانہ اور منکسرانہ طبیعت اور کتابی دلچسپیوں کے باعث یہاں کے اساتذہ و اکابر کی نظروں میں خصوصی مقام بنا لیا تھا۔

پروفیسر احمد سعید صاحب نے بزم اشرف کے چراغ میں لکھا ہے

”دورانِ طالب علمی آپ نے اپنی صالح اور ملکوتی زندگی کو اس طرح پیش کیا کہ مدرسہ کے اساتذہ

اور طلبہ آپ کی طرز زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔

عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندویؒ جس سال یہاں مظاہر علوم میں دورہ حدیث شریف میں شریک تھے، اس سال حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنیؒ نے ابوداؤد شریف کے سبق میں فرمایا تھا کہ

”طالب علم اگر طالب علمی کے زمانے سے صاحب نہایت نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، مولانا ابراہیم صاحب کو

اللہ پاک نے طالب علمی ہی کے زمانے میں یہ دولت عطا فرمائی تھی۔“ (تذکرۃ الصدیق ص ۲۶۰ ج ۲)

یہاں قیام کے دوران آپ نے اپنا اصلاحی و روحانی تعلق حضرت حکیم الامتؒ سے استوار کیا اور ہر ہفتہ تھانہ بھون جانے کا معمول بنالیا، والد ماجد کا حضرت تھانویؒ سے قدیم تعلق تو تھا ہی، خود مظاہر علوم میں آپ کے اساتذہ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوریؒ اور حضرت مولانا محمد اسعد اللہؒ کا بھی حضرت تھانویؒ سے اصلاحی و روحانی تعلق تھا اس کے علاوہ حضرت تھانویؒ مظاہر علوم کے سرپرست بھی تھے اور یہاں اکثر و بیشتر حاضری ہوتی رہتی تھی پھر مظاہر علوم کے علمی و روحانی ماحول نے بھی آپ پر بہت اثر کیا، ان حالات کی مناسبت سے حضرت محی السنۃ کشاں کشاں سلسلہ تھانوی سے قریب تر ہوتے چلے گئے اور بالآخر صرف ۲۲ سال کی عمر میں بارگاہ تھانوی سے خلعت خلافت حاصل کر لی۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

آپ کی پوری تعلیم یہیں مظاہر علوم میں ہوئی ہے، آپ کے ابتدائی اساتذہ میں حضرت مولانا امیر احمد کاندھلویؒ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الجبار اعظمیؒ، حضرت مولانا نور محمدؒ، حضرت مولانا عبد الشکورؒ، حضرت مولانا محمد اسعد اللہؒ، حضرت قاری مفتی سعید احمد اجڑویؒ، حضرت مولانا محمد زکریا قدوسی گنگوہیؒ اور حضرت علامہ صدیق احمد کشمیریؒ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

آپ نے بخاری شریف جلد اول اور ابوداؤد شریف مکمل شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلویؒ سے، بخاری شریف جلد ثانی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عبد اللطیف پور قاضویؒ سے، مسلم شریف اور نسائی شریف حضرت مولانا منظور احمد خانؒ سے، ترمذی شریف و طحاوی شریف حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوریؒ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔

زمانہ طالب علمی سے ہی استاذ الکمل شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عبد اللطیفؒ ناظم مدرسہ سے خصوصی مناسبت رہی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص بھی رہے۔

سند حدیث کا مبارک سلسلہ استاذ محترم حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ سے ہوتا ہوا حضرت مولانا خلیل احمد

محدث سہارنپوریؒ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ، حضرت مولانا شاہ محمد اسحق محدث دہلویؒ سے ہوتا ہوا مسند الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ سے جاملتا ہے۔

مظاہر علوم میں اپنے دیگر اساتذہ کرام بالخصوص حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد اسعد اللہؒ، قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ اور مفتی اعظم حضرت مفتی سعید احمد اجڑویؒ سے خصوصی تعلق رکھا اور فراغت کے بعد دعوتی سلسلہ میں جب کبھی مغربی یوپی آنا ہوا تو مادر علمی مظاہر علوم وقف میں ضرور تشریف لاتے، مدرسہ کے حالات معلوم کرتے، کبھی مؤذن کو بلا کر اذان کی تصحیح فرماتے، تو کبھی امام کے سلام اور تکبیر وغیرہ کو درست فرماتے۔

آپ نے اپنی مادر علمی مظاہر علوم وقف سہارنپور کے چار دور نظامت کو دیکھا (۱) استاذ الکل حضرت مولانا سید عبداللطیف پور قاضیؒ (از ۱۳۴۷ھ تا ۱۳۷۳ھ) (۲) حضرت مولانا محمد اسعد اللہ رامپوریؒ (از ۱۳۷۳ھ تا ۱۳۹۹ھ) (۳) حضرت مولانا مفتی مظفر حسین اجڑویؒ (از ۱۴۰۰ھ تا ۱۴۲۲ھ) (۴) حضرت مولانا محمد سعیدی مدظلہ (از ۱۴۲۲ھ تا حال) مذکورہ سبھی حضرات سے تعلق رکھا۔

فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحبؒ کا بہت احترام فرماتے تھے، ہمیشہ مکاتبت اور مراسلت رہی، مدرسہ اشرف المدارس کے نظم کے سلسلہ میں حضرت مفتی صاحبؒ سے معلوم کرتے رہے کہ اس سلسلہ میں مظاہر علوم میں ہمارے بزرگوں کی کیا روایت رہی ہے، مظاہر علوم (وقف) کا اس سلسلہ میں کیا قانون ہے؟ کیا اصول ہیں؟ مشاہرہ جات کا کیا معمول ہے؟ اس قسم کے بہت سے مسائل میں برابر رجوع فرماتے رہے۔

منکرات کے سلسلہ میں اپنے تمام معاصرین سے بڑھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوش سلیقگی کے ساتھ منکرات و منہیات پر روک ٹوک کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ مخاطب کو پشیمانی نہیں ہوتی تھی، ان کی پوری زندگی اتباع سنت محمدی ﷺ کے سانچے میں ڈھل گئی تھی، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی تھی، جس بات کو کہتے بڑے اچھے انداز میں کہتے کہ مخاطب پر فوری اثر ہوتا تھا، اصول پسندی میں وہ اپنے مرشد حضرت حکیم الامتؒ کا پر تو تھے تو نظم و انتظام میں اپنے استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عبداللطیف پور قاضیؒ کا عکس جمیل تھے، سوزدروں میں اپنے استاذ حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوریؒ تھے تو جذب و معرفت میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوریؒ نظر آتے تھے، اخلاص و فنائیت میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنیؒ پھول پوریؒ تھے تو علوم و فنون اور سلوک و طریقت میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ کی نظیر اور تواضع و انکساری میں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاب گڑھی محسوس ہوتے، انہوں نے بزرگوں کی روایات اور ان کے قائم کردہ خطوط و نقوش پر چل کر دکھلادیا اور ثابت کر دیا کہ ۔

ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا

وہ کون سا عقدہ ہے جو وا ہو نہیں سکتا

قرآن کریم کو صحیح لفظی کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا ان کی زندگی کا اہم خاصہ تھا، ان کا مرتب کردہ قاعدہ نورانی (ہردوئی والا) جس قدر مقبول ہوا اور مدارس و مکاتب میں جس قدر پذیرائی ہوئی اس سے حضرت ہردوئی کے خلوص اور جذب دروں کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت ہردوئی بہت اصول پسند تھے ان کے مدرسہ اشرف المدارس اور آپ کے زیر انتظام دیگر مدارس اور شاخوں میں جتنے اساتذہ کا تقرر ہوتا تھا چاہے کسی بھی عہدہ پر ہو اس کے لئے قاعدہ نورانی کا امتحان اور مشق ضروری تھی اس سے دو بڑے فائدے تھے ایک تو مدرس صاحب کو قرآن کریم صحیح قواعد کے ساتھ پڑھنا آجاتا تھا اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ نفس مرجاتا تھا، خاکساری و تواضع کی صفات پیدا ہو جاتی تھیں، غرور و تکبر، انانیت اور نفس پرستی کا دور دورہ تک شائبہ نہیں رہتا تھا۔

آپ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ اساتذہ و مدرسین کا کسی نہ کسی بزرگ شخصیت سے تعلق اور روحانی و اصلاحی رابطہ ضرور ہو کہ ایسے حضرات کی ذات سے مدرسہ کے اصول و قانون کے خلاف کسی بات کے سرزد ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے پھر جب استاذ کے اندر خشیت و للہیت ہوگی تو شاگردوں کو بھی اس سے سبق ملے گا اور پوری جماعت سلوک و احسان کے رنگ میں رنگی چلی جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خلاف قانون کسی امر کے سرزد ہونے پر براہ راست بیرومرشد سے رجوع کر کے اس کا اخراج آسان ہوتا ہے۔

نظم و انتظام کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا خیال، ان کے مشاہرہ جات میں حسب ضرورت اضافہ، صفائی و ستھرائی پر بھی خصوصی توجہ دیتے تھے، صفائی و ستھرائی کے معاملہ میں تو ان کے بہت سے واقعات ہیں کبھی کسی مدرسہ میں پہنچے تو بلا اطلاع مطبخ، غسل خانوں اور بیوت الخلاء کا چکر لگایا تا کہ پتہ چلے کہ مدرسے والے کہاں تک صفائی پسند ہیں۔

بندیل کھنڈ کے ایک بڑے مدرسہ میں بلا اطلاع پہنچ کر سیدھے مطبخ میں داخل ہوئے وہاں دیکھا کہ طبّاخ حضرات نیکر پہن کر روٹیاں لگا رہے ہیں، رانیں کھلی ہوئی ہیں، اہل مدرسہ پر بہت بگڑے کہ جب اس لباس میں روٹیاں پکائی جائیں گی اور ان کو طلبہ کھائیں گے تو ان کے اندر کہاں سے برکت پیدا ہوگی؟۔

ایک بڑے مدرسہ پہنچے اور ناظم مدرسہ کو حکم دیا کہ اذان سنائیں ایک اہم مفتی کو سورہ فاتحہ سنانے پر مامور فرمایا اذان میں غلطیاں بتائیں، سورہ فاتحہ کی قراءت میں خامیاں نکالیں، لیکن کسی نے اپنی کسر شان نہیں سمجھی۔

قصبہ لہر پور، ضلع سیتاپور کے ایک بڑے مدرسہ میں سالانہ اجلاس میں شرکت اس شرط کے ساتھ منظور فرمایا کہ اشتہار میں میرا نام نہیں ہوگا لیکن اہل مدرسہ نے نام لکھ دیا جس کی وجہ سے حضرت جلسہ میں تشریف نہیں لائے، منتظمین نے بڑی منت سماجت کی، حیلے بہانے تراشے، پریس کی غلطی بتلائی، کاتب کو خاطی ٹھہرایا، لیکن حضرت یہی فرماتے رہے کہ آج کل علماء وعدہ خلاف ہو گئے ہیں، جب یہی حضرات عہد و پیمان کو توڑنے لگیں گے تو

پھر وعدوں کو کون پورا کرے گا۔

آپ ایسے جلسوں اور اجتماعات میں کبھی شرکت نہیں فرماتے تھے جہاں ضرورت سے زائد بجلی و روشنی کا نظم ہو، قہقروں کی جگمگاہٹ، غیر ضروری سجاوٹ اور اسٹیج کی پر تکلف بناوٹ پر وہ بہت برا فروختہ ہوتے تھے اسی طرح جہاں فوٹو کھینچے جا رہے ہوں، اسراف ہو رہا ہو وہاں بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

سیتا پور میں آپ کے ایک معتقد نے اپنی بیٹی کے نکاح میں مدعو کیا نکاح پڑھانے کی درخواست کی، درخواست منظور ہو گئی، وقت مقررہ پر پہنچ کر نکاح پڑھایا اور واپس چلنے لگے، داعی نے عرض کیا کہ حضرت کھانا بالکل تیار ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کھانا تناول فرمالیجئے، فرمایا صرف نکاح پڑھانے کی بات کی تھی سو وہ ہو چکا ہے کھانے کی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی اس لئے کھانا نہیں کھاؤں گا، داعی صاحب مزاج آشنا تھے، اس لئے خاموش ہو گئے اور حضرت واپس تشریف لے آئے۔

دورانِ تقریر آپ کا معمول تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے اور بڑے حضرات کو سامنے بٹھاتے تھے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ یہی بچے آگے چل کر قوم کے داعی اور خدمت گار بنیں گے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مقررین کو دیکھنے کے لئے یہ بار بار اٹھنے اور اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے سوتیں گے نہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، موت تو ہر ایک کو آتی ہے، لیکن آپ کی رحلت اس معنی کر بہت اہم ہے کہ آپ حضرت حکیم الامتؒ کے آخری خلیفہ تھے، جن کی ذات گرامی سے پوری دنیا روشنی حاصل کرتی تھی، افسوس کہ ۸ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ منگل کے دن رات ۹ بجے سلسلہ تھانوی کا وہ ستارہ بھی غروب ہو گیا۔

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی
اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے

☆☆☆

جیسا ایمان ویسی چائے

حضرت محی السنۃ ایک بار کہیں سفر میں تھے، کسی ریلوے اسٹیشن پر احباب نے چائے کی پیش کش کی، حضرتؒ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا، چائے پینے کے بعد ازراہ محبت کسی معتقد نے پوچھا کہ ”حضرت چائے کیسی تھی؟ مسکرا کر فرمایا کہ ”ٹھیک تھی! جیسا ہمارا ایمان ویسی چائے“

کچھ یادیں // کچھ باتیں

مولانا احمد نصر بنارسى مظاہرى

محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی قحط الرجال کے اس دور میں بہت غنیمت تھی، اخلاق و اصلاح، دعوت و تبلیغ، سلوک و طریقت اور تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں انہوں نے مرشد گرامی حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔

ناکارہ نے سب سے پہلے حضرت والا کو الہ آباد میں اس وقت دیکھا تھا جس وقت میں وہاں زیر تعلیم تھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور زیارت کے لئے حضرت محی السنۃ تشریف لائے، فجر کے وقت بیدار ہونے پر مسجد کی طرف جاتے ہوئے ایک خوبصورت بزرگ کو سیڑھی کے نیچے چبوترہ پر تشریف فرما دیکھا، حضرت شاہ صاحب جو مسجد تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے بھی چبوترہ پر تشریف فرما بزرگ کو غور سے دیکھا اور کسی سے دریافت کیا کون صاحب ہیں؟ عرض کیا گیا! مولانا ابرار الحق صاحب ہیں حضرت شاہ صاحب نے بڑے تپاک سے سلام کیا، ملاقات اور معانقہ کے بعد فرمایا کس وقت تشریف لائے، مولانا نے عرض کیا کہ تین بجے حاضر ہو گیا تھا، کسی کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔

حضرت شاہ صاحب نے مولانا ابرار الحق صاحب کا سامان اٹھوا کر قیام گاہ پہنچوایا اس وقت اپنی نوعمری کے باوجود دونوں بزرگوں کے درمیان ملاقات اور عقیدت و احترام کے وہ قابل رشک مناظر اب بھی ذہن میں تازہ ہیں، دونوں حضرات ایک ہی پیر کے خلیفہ اور حضرت ہر دوئی آل رسول مگر دوسرے اکابر سے استفادہ کی نیت سے حاضری ان کے تواضع و للہیت اور فروتنی پر دال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ضیافت اور مہمان نوازی کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا، ایک بار عشا کے وقت حاضری ہوئی ملاقات کے بعد فرمایا کہ آرام کیجئے، صبح گفتگو ہوگی فجر سے پہلے خادم آگیا اور اس نے اطلاع دی کہ حضرت یاد فرماتے ہیں، جلدی سے با وضو ہو کر حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ پر تکلف ناشتہ تیار ہے، فرمایا! کہ مجھے فجر بعد ایک جگہ جانا ہے، ناشتہ کر لو اگر واپسی ہوگئی تو پھر ملاقات ہوگی ورنہ آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق تشریف لے جانا، دورانِ ناشتہ نصیحت آمیز گفتگو فرماتے رہے اور پھر حضرت کنج مراد آباد تشریف لے گئے اور خوش قسمتی

سے جلد ہی تشریف لے آئے، راقم کو ایک وظیفہ عطا فرمایا جس میں تحریر تھا

درویش شریف ۳ مرتبہ۔ سورہ فاتحہ ۳ مرتبہ۔ آیۃ الکرسی ۳ مرتبہ

سورہ فلق ۳ مرتبہ۔ سورہ ناس ۳ مرتبہ۔ درویش شریف ۳ مرتبہ

نوٹ:- کم از کم تین مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کر دم کرنا اور جو نہ پڑھ سکے ان پر دوسرا دم کرے اور پانی پر دم کر کے ہر نماز کے بعد یا صبح و شام مریض کو پلانا۔

وقت کی قدر دانی، معاملات کی صفائی اور اصولوں پر عمل درآمد آپ کا امتیاز تھا، ایک بار سرائے میر ایک جلسہ میں تشریف لائے، وہاں سے بنارس آنا تھا اور حاجی اکرام مرحوم سابق ناظم جامعہ مطہر العلوم کے یہاں ان کا قیام طے تھا، حاجی صاحب مرحوم نے احقر سے فرمایا کہ تم سرائے میر جا رہے ہو، واپسی میں حضرت کے ساتھ ہی آ جانا اور یہ کہہ کر کار سے واپسی کا کرایہ بھی پیش کیا جلسہ سے فراغت پر بنارس کے لئے روانہ ہوئے حضرت تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے، بنارس پہنچنے پر کار سے اترے اور احقر سے فرمایا کہ حاجی صاحب کو رقم واپس کر دو ان سے میں حساب کر لوں گا۔

اس واقعہ سے وقت کی قدر دانی، معاملات کی صفائی اور تعلقات کو نبھانے کی پاکیزہ صفات ظاہر ہیں۔ انتقال پر ملال سے تقریباً پچاس دن پہلے حاضری ہوئی، ایک اطلاعی پرچے پر لکھ کر بھیجا کہ احمد نصر بنارس سے برائے ملاقات و زیارت حاضر ہوا ہے، فوراً بلا لیا لیٹے لیٹے مصافحہ فرمایا، کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے، مغرب کے بعد پھر حاضری ہوئی، خادم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صرف مصافحہ ہی کریں بات نہ کریں لیکن ملاقات ہونے پر حضرت والا نے خادم سے فرمایا کہ ذرا تکیہ لگا کر مجھے بٹھا دو، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آرام فرمائیں اٹھنے کی زحمت نہ فرمائیں، فرمایا کوئی بات نہیں، میرے داماد مولوی سید معین الدین جامی سلمہ ساتھ تھے، ان سے بھی حضرت والا محو گفتگو رہے، چلتے وقت مطبوعہ مضامین عطا فرمائے۔

۱۹۹۳ء میں بندہ سفر حج کے لئے جا رہا تھا، حضرت والا نے اپنے الطاف کریمانہ سے مکتوب گرامی تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ ارکان کی ادائیگی اور حق تعالیٰ کا استحضار نیز مدینہ پاک کی حاضری پر وہاں کے خصوصی ادب و احترام اور اہتمام سے مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا خیال رکھنا، آج جب حضرت ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ان کی محبتیں اور شفقتیں یاد آ کر قلوب کو رنجیدہ اور آنکھوں کو نم دیدہ کر رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور پوری امت کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔

کچھ تاثرات

کچھ یادیں

مولانا محمد کلیم صدیقی، جمعیت شاہ ولی اللہ دہلی

ایک ہفتہ میں تین ایسے متدین لوگوں سے جو راقم سطور کے گمان میں بہت ثقہ سمجھے جاتے ہیں جن کو خواب وغیرہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں دو تین روز کے وقفہ سے یہ بات سنی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے ایک جم غفیر آپ کی تدفین میں شریک ہے، اے امی کو یہ حقیر گنگوہ میں تھا، ان میں ایک صاحب نے جو قرآن حکیم کے عاشق ہیں انہوں نے ادھیڑ عمر میں قرآن حکیم حفظ کیا ہے اور قرآنی فہم اور اسرار و علوم کے دہانے اللہ نے اپنی محبوب کتاب سے عشق کی وجہ سے ان پر کھول رکھے ہیں، مجھے بتایا کہ میں نے آج دوپہر کو قیلولہ میں یہ خواب دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ کا وصال ہو گیا، میں نے جسد مبارک کو دیکھا اور دیکھا کہ ازدحام آپ کی تدفین میں شریک ہے، تینوں حضرات کے خواب کے بعد اس حقیر کو یہ خیال ہوا کہ یہ وارث نبی، عالم دین کے انتقال کی خبر ہے اور اپنی دانست میں ایک عالم ربانی جو ایک زمانہ سے بہت علیل ہیں ان کی طرف سے فکر پیدا ہوئی، رات ہونے کے بعد اچانک عزیزی حافظ اور یس کا فون آیا کہ محی السنۃ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

کالج کی زندگی سے مدرسہ کے سایہ میں آنے تک بلکہ اس سے کچھ پہلے سے اس حقیر کی زندگی میں حضرت مولانا اسعد اللہ، ناظم مظاہر علوم سے لے کر اس حادثہ عظیم تک کتنے اکابر اور سرپرستوں کے وصال کے واقعات پیش آئے، جن سے نہ صرف یہ کہ اس حقیر کو نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ تعلق تھا بلکہ ایک خادم اور عقیدت مند کی حیثیت سے یہ اکابر اس حقیر کو جانتے تھے، حضرت مولانا اسعد اللہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی اور حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خاں، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب، حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی، حافظ عبدالستار ناکوی، شیخ محمد محسن علوی مالکی، فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی وغیرہ حضرات تو کم از کم اس حقیر کے ساتھ اپنے ایک خادم اور مرید کی طرح تعلق اور شفقت فرماتے تھے، اس کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سے مشائخ اور مشاہیر کی وفات کے حادثے سننے کو ملے۔

دینی قائدین اور علماء ربانیین کے لئے جو بھی بڑے سے بڑا لقب اہل تصوف، عارفین، اولیاء اور مصلحین کیلئے کتابوں یا لغات میں ملتا ہے وہ حضرت والا شاہ ابرار الحق پر سو فیصد بر محل نظر آتا ہے، بقیۃ السلف ان کو نہ کہا جائے تو کس کو؟ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی جن کے دیکھنے والے خال خال دنیا میں رہ گئے ہیں، حضرت تھانوی کے وہ نہ صرف آخری خلیفہ و مجاز تھے بلکہ حکیم الامت کے اصول و ضوابط اور طریق تعلیم و تربیت کو اصل مزاج کے ساتھ اوڑھ کر اس کی ترویج و اشاعت کرنے والے ہیں، قدوة السالکین ان کو نہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے کہ؟ بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر آباد

اعظم میں اصلاح و تربیت اور سلوک و تصوف کے سلسلہ میں ان سے ان کے مستر شہین سے بیعت و اصلاح کا تعلق رکھنے والے شاید کروڑوں تک پہنچ رہے ہوں۔ زبدۃ العارفین ان کو نہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ کہ دنیا میں ۱۰۳ مجازین بیعت اور ۳ مجازین صحبت ہیں۔ جن کو راہ معرفت میں اعتماد کی سند اپنی سخت پرکھ کے ساتھ انہوں نے خود دی ہے اور ان کے خلفاء کے خلفاء کی تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک اجل خلیفہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ کے صرف بچہ دیش میں خلفاء ۱۰۰ سے متجاوز ہیں، حامی سنت ان کو نہ کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کہ تین چوتھائی صدی تک صرف مزاج سنت کو پرکھ کر ایک ایک سنت کو دنیا میں پھیلا نا ان کا خاص شعار رہا، جن کی اس خصوصیت کی وجہ سے بالاتفاق، خواص امت نے ان کا لقب بھی محی السنۃ رکھا اور گویا یہ لقب ان کے نام کا جزء بن گیا، ان کو ماحی بدعت نہ کہیں تو کس کو کہیں گے؟ سنت کے خلاف پھیلی نہ جانے کتنی رسموں کو جو دین سمجھ کر لوگ کر رہے تھے اور لوگوں کی نگاہیں ان تک نہیں جاتی تھیں حضرت والا نے کھل کر ان کے خلاف آواز لگائی اور معاشرہ سے ان کو صاف کیا، اس کے علاوہ شیخ المشائخ، قطب الاقطاب شیخ القراء، سرخیل اولیاء، عارف کامل، عالم ربانی جیسا ہر لقب نہ صرف ان کی شخصیت پر بجا تھا بلکہ بر محل نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے مشکل ہے، اولیاء کے مقام اور مرتبہ کو اولیاء ہی جان سکتے ہیں، علم و عمل سے یہ عاری یہ کھوٹا اور چھوٹا حضرت محی السنۃ کے بارے میں کیا کچھ لکھ سکتا ہے۔

اس حقیر نے ۲۵ رسالہ نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ تعلق اور حضرت والا کی طرف سے ایک بے حقیقت دیہاتی پر شفقت اور عنایت کے رشتہ کے بعد اس حادثہ عظیم پر اپنے دل کی تسکین کیلئے قلم اٹھایا ہے کہ کچھ یادیں قلم کی زبان سے نقل کر کے کچھ احسان شناسی کا مظاہرہ ہو جائے ورنہ اہل و دانش اور ارباب ادب و قلم رہتی زندگی تک حضرت کے فضائل اور مناقب بیان کرتے رہیں گے اور اس موضوع کا حق ادا کرنا انہیں کو زیب دیتا ہے۔

نبی رحمت ﷺ کے سیرت نگاروں نے آپ ﷺ کی رحمۃ للعالمین کے سلسلہ میں یہ بات تو اتر کے ساتھ لکھی ہے کہ آپ کی شفقت و عنایت کسی خاص فرد یا جماعت کے لئے مخصوص نہ تھی بلکہ آپ کی شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر صحابی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ ﷺ سب سے زیادہ مجھ ہی سے شفقت و محبت فرماتے ہیں، ایک حقیقی وارث نبی کی حیثیت سے یہ بات حضرت محی السنۃ کے ہر خادم کو محسوس ہوتی تھی یہ حقیر حضرت والا سے باضابطہ رسماً اصلاحی تعلق نہیں رکھتا تھا اور باوجود حد درجہ مناسبت اور تعلق کے اپنے مشاغل اور بعض دوسرے اعذار کے سبب بہت زیادہ حاضری بھی حضرت والا کی خدمت میں نہیں دے پاتا تھا مگر جب بھی یہ حقیر حاضر خدمت ہوتا تھا تو اس کو واپسی پر اس طرح لوٹنا ہوتا تھا کہ یہ خیال ہوتا کہ حضرت والا دنیا میں سب سے زیادہ مجھ ہی سے شفقت اور تعلق کا اظہار فرماتے ہیں یہ احساس نہ صرف یہ کہ اس حقیر کو ہوتا تھا بلکہ ہمارے وہ تمام رفقاء جو وقتاً فوقتاً اس سیہ کار سے تعلق کے واسطے سے حضرت کی خدمت میں ملاقات کیلئے جاتے تھے وہ بھی یہ بات محسوس کرتے تھے کہ حضرت والا ہم لوگوں سے والہانہ شفقت فرماتے ہیں۔

یوں تو اس حقیر کی پہلی ملاقات حضرت محی السنۃ سے سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے یہاں ۱۹۷۷ء میں ہوئی تھی، یہاں دار جدید میں حضرت آکر رمضان میں قیام فرماتے اور یہ حقیر بھی مرشدی حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کے ساتھ یکم رمضان سے حاضر ہو کر حضرت کے ساتھ دار جدید میں ہی قیام کرتا تھا مگر ہر دوئی حضرت والا کے یہاں پہلی حاضری غالباً ۱۹۸۰ء کے آخر میں ہوئی، جہاں یہ حقیر اپنے بہنوئی جناب سید قمر الاسلام کی موٹر سائیکل پر (جو محمدی ضلع لکھنؤ میں سرکاری ملازمت کے سلسلہ میں مقیم تھے) محترم قاری صبیح الدین کے ساتھ محمدی سے ہر دوئی حاضر ہوا، جا کر عصر کی نماز پڑھی، نماز سے پہلے حضرت سے ملاقات ہوئی، مصافحہ معانقہ فرمایا اور فوراً نظم معلوم کیا عرض کیا کہ صرف ملاقات کیلئے حاضر ہوئے ہیں، ملاقات کے بعد فوراً واپسی کا ارادہ ہے حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد اتنا وقت تو ہو گا کہ چائے پی لیں ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت کے یہاں چائے پینا ہمارے لئے سعادت کی بات ہوگی، نماز کے بعد مہمان خانہ میں آکر حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ گئے، ریکیسین کا دسترخوان تھا، جو ذرا موٹا تھا اور رول کی وجہ سے مڑ سا گیا تھا دسترخوان کو بار بار سیدھا کیا جاتا تھا مگر وہ پھر رول ہو جاتا تھا، حضرت والا دسترخوان پر چار زانو بیٹھ گئے، یہ حقیر کیونکہ کالج کی زندگی سے آنے والا نیا نیا ملا تھا دل میں اشکال پیدا ہوا کہ اتنے بڑے شیخ اور دسترخوان پر چار زانو بیٹھ گئے، یہ سنت کے مطابق نشست نہیں ہے، بزرگوں کی ایک کرامت یہ بھی سنی تھی کہ ان کو کشف ہوتا ہے چنانچہ حضرت کے یہاں اس کا مشاہدہ بھی ہوا، چائے آنے سے پہلے حضرت نے فرمایا جب کوئی چیز الٹی مڑ جائے اور بہت زمانہ تک مڑی رہے تو اس کو سیدھا کرنے کیلئے الٹا موڑنا پڑتا ہے تب جا کر وہ سیدھی ہوتی ہے یہ دسترخوان الٹا مڑا کھارہا اب بار بار اس کو سیدھا کیا جاتا ہے پھر رول ہو جاتا ہے اب اس کو سیدھا کرنے کیلئے الٹا موڑنا پڑے گا اس حقیر کی طرف ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ اس حقیر کو لگا کہ حضرت میرے وسوسہ کو پڑھ کر فرما رہے ہیں فرمایا کہ جب مستحب کو واجب سمجھا جانے لگے تو اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے، چائے آئی اور چائے پر بھی حضرت چائے اور دسترخوان پر رکھی چیزوں کے حوالہ اور روزمرہ کی مثالوں سے اصلاح و تزکیہ کے معارف ارشاد فرماتے رہے۔

آپ کی مشفقانہ گفتگو سے محظوظ ہونے کے بعد اجازت لے کر رخصت ہونے لگا، قاری صاحب نے موٹر سائیکل نکالی تو چلتے چلتے حضرت والا نے موٹر سائیکل اور اس کے پرزوں سے انسانی زندگی اور زندگی کے سفر کے سلسلہ میں بڑی حکیمانہ باتیں ارشاد فرمائیں فرمایا کہ میں موٹر سائیکل سے مسلمان کی زندگی کی مثال دیا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو پہیوں پر زندگی کا سفر ہوتا ہے، پہلا پہیہ اخلاص اور دوسرا اتباع، اگلے پہیہ سے پیچھے کا پہیہ اور اہم ہے اس پر چین اور فرائے ڈھیل ہوتی ہے پھر چین اور فرائے ڈھیل کے لئے بھی کوئی بات فرمائی جو اس وقت یاد نہیں پھر فرمایا میں لائٹ سے علم کی روشنی مراد لیتا ہوں، مین لائٹ اور ڈیم لائٹ سے علم ظاہر اور علم باطن مراد لیتا ہوں اگر لائٹ خراب ہوگی تو موٹر سائیکل کہیں بھی ٹکرا جائے گی۔ اسی طرح اگر علم صحیح نہ ہوگا تو زندگی کی گاڑی کہیں بھی ٹکرا جائے گی اسی طرح خوف کے بریک اگر نہ ہوں تو گاڑی خطرہ میں ہے، اسی طرح

خوف خدا نہ ہو تو زندگی خطرہ میں ہے اسی طرح تعلق مع اللہ کا پیڑول نہ ہو تو ایک ایمان والے کی گاڑی ذرا آگے نہیں بڑھے گی اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پرزوں کی مثالیں دیں آج تک اس حقیر کو اس ملاقات اور ان نصیحتوں کی لذت یاد ہے۔

ایک بار حاضری ہوئی تو ہمت کر کے ایک سوال عرض کیا کہ مدت سے ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، حضرت کے علاوہ کوئی اس کا شافی جواب نہیں دے سکتا اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ حضرت نے فرمایا ضرور! میں نے عرض کیا کہ سنت پر عمل اور احیاء سنت کی اہمیت، ضرورت اور فضائل جو حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں یہ فضائل اور اہمیت صرف عادی سنتوں کی ہے یا سنت مقصودہ کے احیاء کے سلسلہ میں بھی (حضرت والا اس حقیر سے اس نسبت سے خوب متعارف تھے کہ یہ غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت کو ملت کے تمام مسائل کا حل اور مسلمانوں کا فرض منہی کہتا ہے) حضرت والا یہ سوال سن کر تقریباً پانچ منٹ خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولانا صحیح فرماتے ہیں، مولانا بالکل صحیح فرماتے ہیں، حضرت اس حقیر کے سوال سے اس قدر منشرح ہوئے کہ بہت سے اہل تعلق گجرات، بنگلہ دیش اور بمبئی کے علماء کو حکما بھلت بھیجا کہ جا کر کام سیکھو اور اپنے اپنے علاقہ میں کام کرو۔

حضرت والا ایک ایسے مشفق طبیب حاذق تھے جس کی انگلیاں ملت کی نبض پر رکھی ہوں اور وہ نباض طبیب امراض کی تشخیص اور علاج اپنی بصیرت سے کر رہا ہو اور جس کے دل میں ملت کے لئے ۷۰ براؤں سے زیادہ مانتا چھلک رہی ہو، حضرت جب انفرادی یا اجتماعی طور پر بات فرماتے تو ہاتھ کے اشارے سے چہرے کے تاثرات سے، حضرت کی امت کے امراض کی فکر مندی اور حد درجہ درد مندی و شفقت ٹپکتی تھی اور اس شفقت اور محبت کی وجہ سے ان پر امراض کی حقیقت اور علاج بھی کھول دیا گیا تھا حضرت والا ملت کے تمام مسائل کا علاج، قرآن حکیم سے ملت کو جوڑنے میں سمجھتے تھے اس لئے قرآن حکیم سے انہیں والہانہ تعلق تھا اور یہ تعلق ان کو وراثت نبوت میں ملا تھا۔

سنت یا شریعت کے خلاف کوئی بات بڑے سے بڑے قائد سے ہوتے دیکھ کر وہ نکیر فرماتے، ملت میں پھیلی منکرات سے زیادہ اس بات کے لئے فکر مند تھے کہ منکر کو روکنے والی جماعت کوئی نہیں، امر بالمعروف کرنے والی جماعتیں تو ہیں حالانکہ نبی عن المنکر کرنے والی جماعت بنانا بھی فرض کفایہ ہے، راقم سطور نے ایک بار حضرت کے تاکید فرمانے کے بعد پھلت میں آکر نبی عن المنکر کمیٹی تشکیل دی اور اصلاح معاشرہ کا کام شروع کیا، اگلے سفر میں اس کی کارگزاری سنائی تو حضرت والا حد درجہ خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں۔

وصال سے ایک ہفتہ قبل اس حقیر نے فون پر بات کی اور اگلے ہفتہ حاضری کا ارادہ ظاہر کیا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا آپ کے آنے سے خوشی ہوگی مجھے بھی کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں اس سے پہلے کہ یہ سہ کار حاضر ہوتا، حضرت والا اپنے محبوب رب کے جوار رحمت میں چلے گئے۔

ان کی ذات گرامی ایک چلتی پھرتی خانقاہ تھی جس سے نہ جانے معرفت و ہدایت کے کتنے پیاسے سیراب

ہوتے تھے اور کتنے روحانی مریض شفا یاب ہوتے تھے، کیسے کیسے گناہ گار اور جرائم پیشہ افراد ایک ملاقات میں تائب ہو کر زہد و تقویٰ کی ڈگر پر لگ جاتے تھے، بڑے چھوٹے، امیر و غریب، علماء و ادباء ہر طرح کے لوگ ان کی شخصیت کے اندر ایک شیخ کامل اور مربی کو پاتے تھے۔

ایک بار وہی کا سفر ہوا تو ابو ظہبی کے دو شہزادے حضرت کی خدمت میں آئے اور حدیث کی طرح سلوک کی اجازت طلب کی، حضرت نے سلوک و تصوف کی اجازت کے بارے میں سمجھایا وہ بیعت ہوئے اور لوگوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں بڑی مبارک تبدیلی رونما ہوئی، وہ اپنے مسترشدین کی حالت اور باطنی صحت پر بڑی نظر رکھتے تھے، وہی میں ایک بڑے صاحبِ خیر کے یہاں حضرت کو وعظ کیلئے مدعو کیا گیا حضرت والا کا معمول تھا کہ کسی کے یہاں وعظ کیلئے تشریف لے جاتے تو کھانا نہیں کھاتے اور اگر صرف کھانے کے مدعو ہوتے تو کچھ نصیحت ضرور فرماتے، ایک مسترشد جو حضرت کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت نے ان کو صاحبِ خیر کے یہاں جانے کیلئے منع فرما دیا شاید یہ خیال ہوگا کہ وہ حضرت سے تعلق کی نسبت سے دینی خدمت کیلئے اعانت وغیرہ کے سلسلہ میں فائدہ نہ اٹھالیں وہ اہل تعلق اور طالبین کو ہر وقت غلطیوں پر نکیر فرماتے مگر اس میں بڑی ہمدردی اور مصلحت پیش نظر تھی وہ فرماتے کہ ہر وقت غلطی پر ٹوک دیا جاتا ہے تو ہمیشہ کیلئے غلطی چھوٹ جاتی ہے۔ مدارس میں تشریف لے جاتے تو استنجاء خانے اور مطبخ کے نظام کو ملاحظہ فرماتے اور فرماتے جہاں یہ نظام صاف ستھرا اور منظم ہوتا ہے سارا نظام ٹھیک ہوتا ہے۔

ان کی زبان مبارک، علم و حکمت کا گنجینہ ہوتی اور سننے والے کی زندگی بدلنے کی عجیب تاثیر رکھتی تھی وہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اہل ثروت کے ساتھ اگر کوئی غریب آدمی رہتا ہے تو جتنا وہ ان کے ساتھ رہتا ہے اپنی غربت اور افلاس پر حسرت بڑھتی جاتی ہے دیکھتا ہے کہ اہل ثروت گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بے دریغ نوٹوں کو خرچ کرتے ہیں اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، بہترین مکانات بنواتے ہیں یہ دیکھتا ہے اور اپنے افلاس پر حسرت بڑھتی جاتی ہے مگر یہ اہل اللہ ایسے رئیس ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والوں تک ان کی دولت منتقل ہوتی رہتی ہے اور ان کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور صحبت میں رہنے والا بھی اس ایمان اور روحانی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، حضرت کا یہ ملفوظ حضرت والا پر سب سے زیادہ صادق آتا تھا حضرت والا کی صحبت میں رہنے والے میں سنت کا اتباع، قرآن حکیم سے عشق، حرمین شریفین کی زیارت کا شوق، منکر پر نکیر اور ملت کی اصلاح کے سلسلہ میں دردمندی کی دولت منتقل ہوتی جاتی تھی۔

اللہ کے اس محبوب بندے کی ایک ایک ادائیگی تھی کہ اس پر دفتر کے دفتر لکھے جائیں، اس حقیر نے حضرت والا کے سامنے وصال پر اپنا غم غلط کرنے اور اپنے دل کی تسکین کیلئے یہ چند سطریں سپردِ قلم کی ہیں شاید اس نفسِ قدسی کے ذکر سے اس حقیر کے باطن کے ظلمات کو کچھ جلا ملے اور محبوب رب العالمین کے ذکر سے کوئی رحمت کا جھونکا اس سیہ کار پر بھی ہو کر گزر جائے۔

غم کے آنسو

حضرت مولانا رئیس الدین صاحب، استاذ حدیث مظاہر علوم وقف سہارنپور

ہندوستان کی مشہور و معروف برگزیدہ شخصیت، مظاہر علوم وقف کے عظیم فرزند، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق حق ہر دوئی کا حادثہ وفات ”موت العالم موت العالم“ کا مصداق ہے، اس آفتاب عالم تاب کے غروب ہونے سے نہ صرف اہل مظاہر سوگوار ہیں بلکہ عالم اسلام غمگین و حزن اور بحرِ اَلَم میں غرقاب نظر آ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا ایسے درہمیت اور گوہر نایاب سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئی جو سلسلہ تھانوی کا آخری چشم و چراغ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بیش قیمت علوم و معارف کا سچا وارث و امین تھا، یہ سانحہ ملت اسلامیہ کے لئے ایک کرب انگیز اور دردناک حادثہ ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔

حضرت محی السنۃ اپنی زندگی کے آخری سانس تک قرآن و حدیث کی خدمت اور انتہائی جدوجہد کے ساتھ احیاء سنت فرماتے رہے، ان کی رحلت سے جو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے بظاہر اس کا تذکرہ مشکل ہے۔ آپ کی تعلیمات جو حقیقت میں سنت نبویہ کی دوسری تعبیر ہیں رہتی دنیا تک لوگوں کے لئے مشعل راہ اور اکسیر ہدایت ہیں، جن سے ہندوگانِ خدا نور بصیرت اور راہ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، یہ تعلیمات آپ کے لئے باقیات صالحات شمار ہوں گی۔

یوں تو حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی ذات بابرکات میں بے شمار کمالات و خوبیاں ودیعت رکھی تھیں مگر اتباع سنت اور قرآن کریم سے محبت و عشق آپ کی طبیعت کا خاص عنصر تھا، وہ ہمہ وقت قرآن و سنت پر مر مٹنے کے لئے تیار رہتے، اپنے مریدین و متوسلین میں بھی یہ جذبہ بھر دینے کی بھرپور کوشش فرماتے، آپ کے فیض صحبت سے ہزاروں گم گشتہ راہ متوسلین منزل مقصود تک پہنچ گئے۔

ابتداء آفرینش ہی سے اللہ رب العزت نے آپ کی پاکیزہ طبیعت میں ورع و تقویٰ ودیعت رکھا تھا گویا آپ کی تخلیق جبلی طور پر ورع و تقویٰ پر ہوئی تھی غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی طالب علمی کی طویل مدت کے

دوران کبھی مدرسہ کے مطبخ سے کھانا پسند نہیں فرمایا، ہمیشہ اپنا کھانا خود اپنے دست مبارک سے تیار فرماتے تھے، لطافت طبع کی وجہ سے اُس دور میں بھی چھوٹے کا گوشت تناول فرماتے۔

اس فرشتہ صفت برگزیدہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں ہی سے خداوند قدوس نے آپ کو حظ وافر عطا فرمایا تھا، دیکھنے والا چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا، وہ اپنی نشست میں شاہ وقت معلوم ہوتے، سنت نبوی کی تبلیغ و اشاعت کے انوار و برکات ان کی ذات عالی مرتبت میں جلوہ گر تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعاء ان کو لگی ہوئی تھی، ارشاد نبوی ہے

”اللہ اس شخص کا چہرہ سرسبز و شاداب فرمائے جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچادے۔“

ان کے چہرے اور آساریہ وجہ پر یہ شادابی کو رباطن بھی روز روشن کی طرح دیکھ سکتا تھا۔

آپ کی ذات ستودہ صفات میں نعمتوں کی قدر دانی کا جذبہ بھی وافر مقدار میں موجود تھا، طالب علمی کے زمانہ میں والدین کی عطا کردہ جولاٹین مظاہر علوم وقف میں رہ کر رات کی تاریکیوں میں علمی سفر جاری رکھنے کیلئے اپنے ساتھ لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ نو سال کے عرصہ تعلیم میں وہ اس طرح محفوظ رہی کہ ہر روز استعمال کے باوجود اس کی چپنی ٹوٹنے کی بھی نوبت نہ آئی اور جب آپ نے فراغت کے بعد رختِ سفر باندھا تو وطن واپسی کے وقت متاع سفر میں یہ جولاٹین بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔

احیاء لیل اور شب بیداری کے بھی بچپن ہی سے عادی تھے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اپنے استاذ حضرت مولانا سید عبداللطیف صاحب ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تہجد میں بیدار فرماتے اور آپ سے مختصر المعانی کا درس لیتے تھے ”فتن جافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفاً وطمعاً“ آپ پر بچپن ہی سے صادق آتا تھا، اسی دیرینہ عادت کا نتیجہ تھا کہ کئی سال تک جامع مسجد سہارنپور میں تشریف لے جا کر قاری عبدالخالق صاحب خطیب سے تصحیح قرآن تہجد کے وقت فرماتے اور اسی دوران اس بابرکت وقت میں مدتوں آپ نے موصوف سے تجوید و قرأت کا فن حاصل کیا اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ اس فن کے امام کہلائے۔

حضرت محی السنۃ اصلاح و تربیت اور تزکیہ و احسان میں بھی بلند مرتبہ پر فائز تھے، آپ کا طرز حکیمانہ تھا، اس سلسلہ میں ہمعصروں میں آپ کا کوئی شریک و سہم نہ تھا، آپ کے خورد و کلاں آپ کی صلاحیت و صلاحیت کا نہ صرف اعتراف کرتے بلکہ شہادت دیتے تھے۔

حضرت اقدس مولانا تھانویؒ فرماتے تھے کہ ”مولوی ابرار صاحب نسبت ہیں“

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی زمانہ طالب علمی سے آپ کی بزرگی کے قائل تھے وہ بھی آپ کو

صاحب نسبت بتاتے تھے اور حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی سے تو بارہا سنا گیا کہ

”مولانا ابرار بچپن ہی سے صاحب نسبت ہیں۔“

غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت مرشد الامت تھانوی نے ۲۲ سال کی عمر میں خرقہ خلافت و اجازت عطا فرما کر آپ کی بزرگی اور ولایت پر مہر تائید ثبت فرمادی تھی۔

حضرت محی السنۃ کے سبھی اساتذہ آپ سے محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے لیکن مرشد گرامی حضرت مولانا شاہ محمد اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور بھی بہت محبت فرماتے تھے، مظاہر علوم میں طالب علمی کے دوران آپ نے حضرت ناظم صاحب موصوف سے بھی بھرپور استفادہ فرمایا تھا۔

۱۳۹۹ھ میں جب حضرت ناظم صاحب کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت محی السنۃ بمبئی کے سفر پر تھے، اس سانحہ عظیمہ کی اطلاع پا کر حضرت ہر دوئی نے اپنے تعزیتی مکتوب میں حضرت ناظم صاحب کی شفقت و عنایت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ”حضرت موصوف کے شاگردوں میں ناکارہ رہا ہے اس کے باوجود حضرت کی جو عنایات و شفقتیں اس ناکارہ پر تھیں وہ یاد آرہی ہیں۔“ (حیات اسعد ص ۷۲۵)

۱۳۵۷ھ میں جب حضرت تھانویؒ علاج کے لئے لکھنؤ تشریف لے گئے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب خادم کی حیثیت سے ساتھ رہے، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانویؒ نے حضرت وصل بلگرامی مرحوم کی خواہش پر حضرت تھانویؒ کے ملفوظات قلمبند کرنا شروع کیا، حضرت محی السنۃ کو تعاون کیلئے ساتھ لگایا اور ملفوظات کی ایک معتد بہ تعداد جمع ہوگئی، حضرت وصل بلگرامی نے موقع کی مناسبت سے وہ مسودہ حضرت حکیم الامتؒ کی خدمت میں پیش کیا جسے دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ

”مولوی جمیل احمد کے قلمبند کردہ ملفوظات کی تصحیح تو آسان ہے لیکن مولوی ابرار الحق کے لکھے ہوئے ملفوظات کی صحت دشوار ہے، انہوں نے میرے الفاظ کو نقل نہیں کیا، یادداشت لکھ کر میری گفتگو کو بطور روایت بالمعنی کے اپنی عبارت میں لکھا ہے اور اسی وجہ سے الفاظ، مطلب واقعہ، غرض و عنایت سب میں کچھ فرق آگیا، میرے لئے اس ضعف میں نئے سرے سے دماغ پر زور ڈال کر واقعہ کو سوچنا اور لکھنا غیر ممکن ہے، اس کے معلوم ہونے پر جس قدر مجھے پریشانی ہوئی وہ بیان میں نہیں آسکتی“ (الفصل للوصل ص ۷)

مرشد گرامی مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے انہی ایام میں تھانہ بھون تشریف لے گئے، وصل صاحب نے صورت واقعہ آپ کے سامنے رکھی، حضرت مناظر اسلام چونکہ حضرت تھانویؒ کے مزاج شناس تھے اس لئے اس مجموعہ پر نظر ثانی منظور فرمائی اور رمضان شریف میں وہاں قیام کے دوران ملفوظات کو منقح کیا جو بات قابل تحقیق نظر آئی اس کو حیلے بہانے سے دوران گفتگو حضرت تھانویؒ سے معلوم کرتے رہے اور اس طرح تمام خامیوں کو دور کر کے وصل صاحب کے حوالے کر دیا، حضرت تھانویؒ نے دوبارہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے، مجموعہ پسند فرمایا اور مفتی جمیل احمد تھانویؒ کے جمع کردہ ملفوظات کا نام ”جمیل الکلام“ مولانا ابرار الحق کے جمع کردہ ملفوظات کا پہلا نام ”نزل الأبرار“ اور مناظر اسلام حضرت مولانا اسعد اللہ کی تصحیح و تنقیح

کے بعد دونوں حضرات کی رعایت سے دوسرا نام ”أسعد الأبرار“ تجویز فرمایا اور استاذ و شاگرد کی منسوب یہ کتاب اسی نام سے شائع ہوئی۔

افسوس کہ یہ تاجدار علم و تقویٰ محی السنۃ اُمت کو بلکتا ہوا چھوڑ کر اس دار فانی سے ہمیشہ کیلئے عالم باقی کی طرف روانہ ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے محاسن و کمالات لکھنے کیلئے ایک عظیم دفتر درکار ہے، مگر مختصر ایوں کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی ذات والا صفات ایک جامع کمالات شخصیت اور حیات نبوی کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔

مظاہر علوم وقف کے خوش بخت ناظم و مہتمم جناب حضرت مولانا محمد سعیدی حفظہ اللہ تہنیت اور مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بروقت مادر علمی مظاہر علوم کے اس عظیم فرزند کی شخصیت پر ایک شاندار اور انتہائی وقیع ”خصوصی نمبر“ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک طرف حضرت والا کے ساتھ اہل مظاہر کے بے پناہ محبت کا مظہر ہے تو دوسری طرف حضرت والا کے مادر علمی کے ساتھ غیر معمولی دیرینہ ربط و تعلق اور قلبی لگاؤ کی بھی غمازی کرتا ہے۔ حضرت محی السنۃ کی مادر علمی کی جانب سے یہ خصوصی پیش کش الفضل للمتقدم کے پیش نظر مظاہر علوم وقف کا ایک امتیاز ہے جس سے حضرت والا کی شخصیت پر آئندہ منظر عام پر آنے والی کوئی پیش کش مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

یہ جان کر مزید خوشی و مسرت ہے کہ حضرت والا کا نو سالہ تعلیمی ریکارڈ، حضرت کے چار نظامتوں کے نام لکھے گئے مکاتیب و خطوط اور دیگر وقیع مضامین اس خصوصی شمارے کی زینت بن رہے ہیں جن سے حضرت کی شخصیت کے مختلف گوشے اجاگر ہوں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

یہ خدام شریعت ہیں جو مانند پیمر ہیں

وہ دریا کیسا ہوگا جس کے یہ قطرے سمندر ہیں

☆☆☆

کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور ہر قسم کی پرنٹنگ کے لئے مشہور و ممتاز

مظفر کمپیوٹر

آپ کہیں بھی ہوں، طباعت کے جھمیلوں سے بچنے کیلئے ہمیں صرف کتاب کا مسودہ بھیجئے، گھر بیٹھے مکمل کتاب لیجئے۔ (مکمل تفصیلات جاننے کیلئے رابطہ قائم فرمائیں)

پروپرائٹر محمد عارف مظاہری، مظفر کمپیوٹر جامعہ مارکیٹ نزد دفتر مظاہر علوم وقف سہارنپور

موبائل: 9837327419 (دکان) 9837423805 (رہائش)

اُن کی خوبیاں بے شمار اُن کی نیکیاں بے مثال

مولانا وحی سلیمان ندوی، مدیر ماہنامہ ارمغان بھلت، مظفر نگر

۱۷ مئی ۲۰۰۵ء کو منگل کے دن پوری دنیا کی اسلامی بلکہ انسانی برادری میں یہ بات بڑے افسوس اور غم کے ساتھ سنی گئی کہ سیدالابرار محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے انسا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت شاہ صاحب ایک جلیل القدر عالم دین، ایک عظیم مربی، ایک روحانی راہنما، ایک غیرت مند مصلح اور سنت نبوی کے ایک درد مند پیامبر تھے، ان کی پوری زندگی اعلاء کلمۃ اللہ، دین کی سر بلندی اور ایک ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لئے وقف تھی، انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کی صلاحیت ممبروں اور محرابوں کے اسٹیج، دینی مدارس کے پلیٹ فارم اور خود اپنے گرم انفاس سے اپنی زندگی کے آخری دم تک اشاعت دین اور احیاء سنت کا غلغلہ بلند رکھا اور اپنے عظیم تر روحانی و دینی سلسلہ کا حق ادا کر دیا۔

شاہ صاحب نے مظاہر علوم وقف سہارنپور میں اپنا تعلیمی سفر پورا کیا، جہاں ان کو حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی اور قاری سید صدیق احمد باندوی جیسے چوٹی کے مشائخ کی رفاقت حاصل ہوئی اور ان سبھی نے خدمت دین کی نسبت سے عالمی شہرت حاصل کی۔

اپنی تعلیمی زندگی ہی میں شاہ صاحب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت ہو گئے تھے، اور برصغیر میں دین کی خدمت اور روحانیت کے فروغ کے لئے حضرت حکیم الامت نے اپنے خلفاء و مریدین کی جو کہکشاں سجائی تھی اس کا ایک تابندہ تر ستارہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کی ذات گرامی تھی۔

مظاہر علوم سے سند فراغ اور حکیم الامت سے اجازت بیعت حاصل ہونے کے بعد انہوں نے شہر ہردوئی (یوپی) کو اپنی کوششوں کا مرکز بنایا اور حضرت تھانوی ہی کے نام سے منسوب ایک شاندار دینی ادارہ اشرف المدارس کے نام سے قائم کیا جس نے آگے چل کر حفظ قرآن، تجوید اور قرأت کی مثالی تعلیم کے لئے مرکزیت حاصل کی اور جس کا نظم و انتظام دینی مدارس کے لئے قابل تقلید نمونہ سمجھا گیا۔

اس مدرسہ کی روشن تاریخ حضرت شاہ صاحب کی ذاتی محنت، تعلیمی امور میں ان کی مہارت اور ان کی بلند نگاہی کی دلیل ہے، حضرت کا یہ مدرسہ حفظ و ناظرہ اور دورہ حدیث شریف کے ساتھ ساتھ دارالافتاء اور شعبہ

نشر و اشاعت جیسے تمام ضروری ساز و سامان سے آراستہ ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے حضرت حکیم الامتؒ کی ایک اور تحریک مجلس دعوة الحق کا اپنی زیر نگرانی آغاز کیا اور اصلاح عقائد، اتباع سنت کی دعوت، شریعت سے وابستگی اور دینی تعلیم کا فروغ، اس کے بنیادی مقصد قرار پائے، شاہ صاحب نے اپنے اس اسٹیج سے مختلف دینی موضوعات پر اشتہارات و رسائل کی اشاعت اور وعظ و تبلیغ کے اسباب مہیا کرنے کے لئے علاوہ ایک سو سے زیادہ دینی مدارس و مکاتب قائم کئے اور ان کو منظم طور سے چلانے کے لئے اس کا ایسا زبردست انتظام اور دستور العمل وضع کیا جو ان کی دینی بصیرت اور ملی درد کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ان مکاتب کے لئے مدرسین کی فراہمی، نصاب تعلیم کی تیاری، تعلیمی نظام کی بہتری، پورے نظام کے اخراجات کے مسائل، ان کے امتحانات، مدرسین کے تبادلے اور اس طرح کے درجنوں مسائل کا ایسا مرتب انتظام خود حضرت شاہ کی باخبری اور روشن ضمیری کے ذیل میں آتا ہے، اسی سلسلہ میں ان کا ایک قابل قدر کام مدرسین کی تربیت اور ٹیچر ٹریننگ کا انتظام بھی ہے جسے ہر دہائی کی اصطلاح میں ”تصحیح“ کہا جاتا ہے، اس شعبہ میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی عملی مشق کے علاوہ عوام الناس کے ضروری بنیادی مسائل سے آگہی کا پورا انتظام ہے اور ہندوستان کے دینی مدارس میں شاید یہ پہلا ادارہ ہے جہاں ٹیچر ٹریننگ کا باضابطہ انتظام کیا گیا ہے۔

دینی مدارس اور مکاتب پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں سے انسانی آبادی کو دین و علم کی بجلی تقسیم کی جاتی ہے، شاہ صاحب کے اس ادارہ کا فیضان بھی اس کے اطراف و جوانب اور قرب و جوار میں مسلمانوں کے اندر دینی شعائر کی بحالی اور صحیح عقیدہ و عمل کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

وہ ایک بلند پایہ شیخ طریقت اور روحانی مصلح تھے، ان کے ارادت مندوں اور مریدوں کا سلسلہ پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلہ کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت شاہ غلام علی مجددی اور شیخ خالد کردی کے بعد اس کی مثال ملنی مشکل ہے پوری دنیا میں ان کے سینکڑوں خلفاء اور پھر ان کے خلفاء کے خلفاء کا روحانی فیض جاری ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں ان کے مرید یا مریدوں کے مرید موجود نہ ہوں، ان کے ایک قابل قدر تنہا خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء کی تعداد چار سو سے متجاوز ہے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے مریدوں کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی جن میں بڑے بڑے مشاہیر علماء اور وزراء شامل ہیں، ابو ظہبی کے کئی شہزادے بھی ان سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے یقیناً یہ حضرت والاؒ اور ان کے سلسلہ کی عند اللہ مقبولیت کی بڑی دلیل ہے، ارادت و بیعت کے اس منصب سے بھی انہوں نے وعظ و ارشاد اور اللہ کا نام سکھانے کی قابل ذکر جدوجہد کی اور اپنے مزاج کو مزاج شریعت اور اتباع سنت کے سانچہ میں اس طرح ڈھال دیا کہ ان کے خلفاء اور مریدین و مسترشدین کے علاوہ ان کے عام فیض یافتگان میں بھی اس کا اثر محسوس کیا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کا دینی مطالعہ بہت وسیع تھا اور وہ شریعت کے مزاج داں اور رمز آشنا تھے، اذان، نماز، قراءت قرآن، مساجد کی صفائی، تعمیرات کا ذوق اور لباس کی تراش و خراش ہر چیز سے ان کی اس خصوصیت کا اظہار ہوتا تھا۔

ان کا خاص وصف ان کی دینی غیرت اور حمیت تھی ان کے یہاں کسی خلاف شرع بات کا کیا ذکر، خلاف سنت و ادب باتوں کا بھی گزر نہیں تھا، کسی کی سنت کی پامالی اور کسی اسلامی ضابطہ کی ناقدری دیکھ کر ان کی رگ حمیت پھڑک جاتی تھی اور وہ اس سلسلہ میں کسی ملامت کی پرواہ کئے بغیر اپنا فریضہ تبلیغ ادا فرماتے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف کے سلسلہ میں تو بہت کام ہو رہا ہے لیکن نبی عن المنکر کے سلسلہ میں مسلمانوں کے قائدین میں بھی عام طور پر غفلت پائی جاتی ہے، شاہ صاحب امر بالمعروف کے ساتھ نبی عن المنکر کے بھی زبردست داعی اور مبلغ تھے بلکہ یہ چیز ان کی زندگی کی پہچان بن گئی تھی۔

ملت کے امراض پر ان کی گہری نظر تھی، وہ ایسے طبیب تھے کہ نبض پر ہاتھ رکھ کر اپنی دینی بصیرت سے امراض کی نشاندہی کر دیتے تھے اور ان کے علاج کے لئے فکر مند رہتے تھے، مثال کے طور پر وہ مدارس کے نظام خصوصاً امتحان کے سلسلہ میں بڑے فکر مند تھے، فرماتے کہ دورہ حدیث شریف کے امتحان میں شامل محدث بننے والے طلبائے علوم نبوت کی نگرانی چوروں کی طرح کی جاتی ہے گویا سند کے قریب تک پہنچنے تک اہل مدارس کو ان کی دیانت داری پر اعتماد حاصل نہیں ہو سکا، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں پر دوسری بڑی کتابیں پڑھانے والوں کی برتری اور تفوق کو وہ قرآن کریم کی ناقدری قرار دیتے تھے اس طرح نہ جانے کتنے منکرات پر کھل کر نکیر کرنا اصلاح منکرات کے سلسلہ میں ان کا مجددانہ شان کا حامل کارنامہ تھا۔

ان کی خوبیاں بے شمار اور ان کی نیکیاں بے مثال اس مختصر سے مضمون میں ان کا احاطہ نہ تو ممکن ہے نہ ہی مقصود، اپنے اس عظیم محسن کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے یہاں ان کی خدمات کا ایک مختصر کا تعارف پیش کر دیا گیا ہے، زندگی کا قافلہ رواں دواں تھا اور ان کی دینی، ملی، علمی اور روحانی و عرفانی خدمات کا سلسلہ روز افزوں تھا اور بظاہر اس طویل سفر کے آثار نہیں تھے، لیکن اچانک ۱۷ مئی ۲۰۰۵ء کو عشاء کے وقت یہ روح فرسا خبر سننی پڑی کہ حضرت والا نے اس جہان فانی کو الوداع کہا اور اپنی جان، اس جان آفریں کے سپرد کر دی جس کے دین کی سر بلندی اور جس کے رسول کی سنتوں کی اشاعت کے لئے انہوں نے اپنا سب کچھ تہج دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

☆☆☆

☆☆

خوبیوں کا مجموعہ

مولانا محمد ناظم ندوی

حضرت محی السنۃ کا ہر ہر لمحہ ذکر الہی، فکر کائنات، احیاء سنت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیلئے وقف تھا، امور شریعت فطری طور پر آپ سے صادر ہوتے، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں نجی مجلسوں میں، عوامی جلسوں میں، انفرادی اور اجتماعی محفلوں میں زبان سے احکام الہی ہی صادر ہوتے، آپ کی اصلاحی کتابیں اور ملفوظات کے قیمتی ذخیرے جو اس بات کے غماز ہیں کہ ہر موقع پر آپ کا قلب ضمیر اور زبان و قلم، معرفت ربانی کے اسرار و رموز ہی بیان کرتے، زندگی کے ہر لمحہ کو جاوداں بنانے کیلئے انہوں نے خود کو وقف کر دیا تھا، خاص طور پر علماء کے طبقہ میں بھی نہی عن المنکر اور منکرات پر نکیر سے جو تغافل پایا جاتا ہے، اس پر آپ خود عمل پیرا ہوتے، اور احباب کو اس کی برابر تلقین فرماتے۔

اجماع سنت، اصلاح معاشرہ کی فکر، اپنے متعلقین کی ایک ایک بات کی نگرانی، فساد و بگاڑ کے اسباب اور ان کا آسان حل اور امت کے علماء کو ان کی ذمہ داری اور فرض منصبی کی برابرتاکید فرماتے رہتے تھے۔ خصوصاً قرآن پاک کی عظمت و اہمیت اور اس کی تصحیح پر تو آپ بہت اہتمام فرماتے اور اس پورے خطہ میں آپ کی حسن توجہ اور شغف و انہماک سے صحت بخارج اور تصحیح قرآن کا مزاج و معیار بنا ہے، آپ نے بہت سے مکاتب قائم کئے اور قرآن پر توجہ مبذول فرمائی جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے آپ نے صحت الفاظ، صحت بخارج اور تجوید و ترتیل ہی پر توجہ نہیں فرمائی بلکہ اس کے اسرار و رموز، اس کے معانی و مطالب اور اس کے عالمگیر و آفاقی پیغام کو بھی بندوں تک پہنچانے کی بھرپور جدوجہد کی، اس کیلئے آپ نے پیادہ پا اسفار کئے، بیس بیس میل پیدل سفر کر کے امت کے سامنے اس کے پیغام کو عام و سہل انداز میں پہنچایا، اس کے لئے انتھک جدوجہد کی اور فرمایا کرتے تھے یہ گردوغبار راہ حق میں جو قدموں پر لگ رہا ہے یہ قدم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے ان مجاہدات نے ہی بعد میں فتوحات کا دروازہ کھولا ہے۔



اور بڑھی تاریکی

مفتی محمد ارشد فاروقی

ہم بے بصیرت و بے بصارت کیا جانیں انوار کی حقیقت اور قدر و قیمت اور ظلمت سے نفرت، ان حقیقتوں کی معرفت تو کبار اولیاء و روحانیت کے پیشواؤں کو ہوتی ہے جو کبھی کبھی بے اختیار ہو کر چھلک پڑتے ہیں۔

راقم حکیم الاسلام قاری محمد طیبؒ کی بافیض مجلس بے مثال میں بیٹھا ہوا تھا کہ بغیر کسی تمہید کے فرمانے لگے جب اللہ کے کسی ولی کی روح اس قفس عنصری سے اس عالم فانی سے پرواز کر جاتی ہے تو اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی اللہ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔

یہ الفاظ گویا غیر اختیاری طور پر زبان مبارک سے نکل آئے پھر گفتگو کا رخ بدل گیا، نماز مغرب پڑھی گئی کہ اتنے میں خبر دینے والے نے خبر دی کہ حکیم الاسلامؒ کے قدیم رفیق، رفیق درس، مشہور بہ حافظ صاحب کا کچھ دیر پہلے انتقال ہو گیا۔

عصر بعد کی مجلس میں جس حقیقت کا اظہار وقت کی سچی ترین زبان سے کیا جا رہا تھا اس منور دل نے حافظ صاحب کے انتقال کے بعد پھیلی ظلمت کا مشاہدہ کر لیا تھا اور بے اختیار اس کا اظہار بھی فرما دیا تھا یہ ایک حقیقت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء۔

۲۲ سال کے عرصہ میں چند ہی ایسے مواقع حسرت آئے جن میں حضرت حکیم الاسلام کی مجلس گہر بار حقیقت کشانے دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردہ کو اٹھا دیا ہو۔

آج جب تاریک رات میں موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی تو محسوس ہونے لگا کہ جیسے کسی کی موت کی دھن بج رہی ہے، کانپتے ہاتھوں سے بٹن دبایا تو خاموشی کے بعد آنے والی غم کی گھڑی کی خبر دی جا رہی تھی ”حضرت ہر دوئی کا انتقال ہو گیا“ یہ خبر دل و دماغ پر بجلی بن کر گری جس جملے کی زبان عادی ہو گئی ہے وہ ادا ہوا۔

انا لله وانا الیہ راجعون۔

یہ حقیقت ہے کہ ظلمت اور بڑھی وہ نورانی چہرہ چاند کی طرح دمکتا چہرہ غروب ہو گیا چاند تو ڈوبنے کے بعد نکل آتا ہے لیکن یہ چاند صرف اپنی چاندنی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور حسن اولنک رفیقاً کے دن ہی سب ملیں گے۔

مولانا ہردوئی کی شخصیت اس دور چشم پوشی و مصلحت بینی میں انتہائی مثالی اور جرأت و کردار کی مالک تھی وہ جہاں خود سنت کے عاشق زار اور عامل تھے وہیں وہ پوری قوت پورے عزم کے ساتھ سنت نبوی ﷺ کو اجڑی زندگیوں میں نافذ کرتے تھے اور پایۂ استقلال کبھی ڈگمگانہ پاتا۔

”دعوت الحق“ نامی انجمن عالی کو اس عالی مقصد کے لئے قائم فرمایا، (جو تھانویؒ کے زمانہ میں قائم تو ہو چکی تھی چل نہ سکی) امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مستقل دو شعبے قرار دیتے اور فرماتے کہ اچھائی کا حکم کرنا آسان ہے لیکن برائی سے روکنا بہت دشوار ہے جب کہ قرآن کریم نے جہاں اچھائیوں کا حکم دیا ہے وہیں برائیوں سے بھی روکا ہے، جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو رک جاتے فرماتے دیکھو عزیزو! تمیں نیکیاں کمانے کا وقت آگیا ہے بائیں پاؤں سے جوتے نکالنا سنت ہے دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنا سنت ہے اللھم افتح لی ابواب رحمتک مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنا سنت ہے چند سکندوں میں تمیں نیکیاں ملیں گی جو کبھی فنا نہ ہوگی شروع کرو عزیز پیارو!

جب وہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قرآن کریم کے نسخے جز دان کے بغیر دیکھتے تو تڑپ اٹھتے جس طرح کوئی جوہری قیمتی ہیرے کو پڑا دیکھ کر بے تاب ہو جاتا ہے جب وہ سنتے کہ قرآن کریم پڑھانے والے استاذ کی تنخواہ کم ہے اور فارسی و عربی پڑھانے والے استاذ کی تنخواہ زیادہ تو بہت ناراض ہوتے۔

حضرت ہردوئیؒ کا خود ارشاد ہے کہ ہمارے مدرسہ میں بسا اوقات قرآن کریم پڑھانے والوں کی تنخواہ درس نظامی کی بڑی کتابیں پڑھانے والے اساتذہ سے زیادہ ہوتی ہے۔

مولانا ہردوئیؒ حضرت تھانویؒ کے ساختہ و پرداختہ اور تربیت یافتہ تھے، مظاہر علوم سہارنپور جیسے عالمی ادارہ کے سند یافتہ اور حضرت تھانویؒ کے اجازت یافتہ تھے، وہ زندگی کا ہر کام سلیقہ و نظم سے کرنے کے عادی تھے اور ان کے ہر عمل سے اس حدیث کی اشاعت ہوتی تھی فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ اس طرح ان کی پوری زندگی پر احسان چھتری کی طرح چھایا ہوا تھا اور ردائے محبت تنی ہوئی تھی اب وہ آغوش رحمت میں ہیں۔

مولانا ہردوئیؒ کو قرآن کریم سے ایسا والہانہ عشق تھا کہ وہ خود عاشقانہ، والہانہ، فدائیانہ انداز میں تلاوت فرماتے کہ رگ و ریشہ میں اثر کر جاتی اور زندگی بھر ان کی کوشش رہی کہ قرآن کریم لوگ بھی صحیح و درست پڑھیں اور اس بارے میں قطعی فروگزاشت نہ ہو اس عالی مقصد کے لئے انہوں نے اندرون ملک و بیرون ملک ایسے مکاتب و مدارس قائم کئے جن میں قرآن کریم ترتیل کے ساتھ تجوید کے مطابق پڑھائے جائیں وہ نورانی قاعدہ غایت درجہ اہتمام کے ساتھ پڑھانے کا نظم فرماتے وہ تربیتی مراکز قائم کرتے، پورے ملک سے مدارس کے

قرآن پڑھانے والے اساتذہ کو اشرف المدارس ہر دوئی بلاتے، چالیس روز کی تربیت کا نظم ہوتا اس طرح قرآن کریم صحیح پڑھنے پڑھانے کی تحریک چلائی جو آگ پانی کی طرح پھیلی، گجرات میں خاطر خواہ اثر ہوا، انگلینڈ اور افریقہ کے شہروں میں ننھے منے بچے ایسے اسلوب میں قرآن پڑھتے نظر آئے جیسے ان گنت ائمہ حرم شریف و سدریں امند آئے ہیں۔

ہر دوئی سے دور دراز علاقہ لو نیا ڈیہہ پھولپور اعظم گڑھ کے مدرسہ شرقیہ میں ایسا اثر ہوا کہ ایک نو عمر طالب علم نے سعودی عرب کی جانب سے منعقدہ مسابقہ قرأت میں امتیازی نمبرات حاصل کر کے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے جو انتہائی اہم اور کسی درجہ میں غیر متوقع بات خانقاہ ابراہیمہ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ تفسیر قرآن کا نظم وہاں تھا ہم حضرت کی مجلس میں حاضر تھے کہ خادم نے بتایا حضرت تفسیر کا وقت ہو گیا! حضرت رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت پابند تھے لیکن اس میں بھی لچک رہتی تھی، بیس منٹ تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوائد درس قرآن بیان فرماتے رہے فرمایا جب میں نے آیت وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کی تفسیر بیان کی تو ایک طالب علم آیا اور بتانے لگا ہم نے مختلف طلبہ کے ہائیں سو روپے چرائے ہیں اب کیا کریں؟ اس نے والد کو لکھا، روپے آئے، سترہ سو روپے ساتھیوں نے معاف کر دئے، پانچ سو روپے ادا کئے گئے۔

فرماتے قرآن کریم سے زیادہ اثر کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، فرماتے تمام مساجد و مدارس میں درس قرآن کا نظم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔

سیدنا امام مالکؒ نے فرمایا جس چیز نے امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کی اسی سے آخر امت کی اصلاح ہو سکے گی البرکۃ مع اکابر کم برکت اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہیں جو لوگ بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ کر کوئی نئی راہ اپناتے ہیں وہی خوار و گمراہ ہوتے ہیں۔

آج کے دور میں جب قرآن کریم کو مشکل ترین کتاب بتا کر صرف تلاوت کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے ایسے دور میں حضرت ہر دوئی کا درس قرآن کریم کی امت کو تلقین کرنا اپنے دور کی بیماری کی تشخیص کرنا بلاشبہ مجددانہ کام ہے۔

مولانا اپنی عملی زندگی میں نوافل و مستحبات کے پابند تھے اور فقہاء کے مشہور قاعدہ سد الذرائع پر سختی سے عامل تھے وہ چھوٹی چھوٹی سنت کو زندہ کرتے اور شہادت کی عظیم سعادت سے بہرہ ور ہوتے وہ آمبور (تملناڈ) گئے، لطیف ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمانے لگے ہمارے یہاں بور پہلے آتے ہیں آم بعد میں، آپ کے یہاں آم پہلے ہے بور بعد میں، پھر جب وہ مولانا جعفر صاحب مہتمم مدرسہ رفیق العلوم آمبور و خلیفہ حضرت کے مکان تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دسترخوان سجا ہے انواع و اقسام کی نعمتوں سے لدا ہے بس کیا تھا خفا

ہو گئے اور فرمانے لگے یہ سنت کے خلاف ہے، اٹھاؤ دسترخوان! خدام نے دسترخوان اٹھایا پھر حضرت اپنے رہنما کے ساتھ تشریف فرما ہوئے خدام نے دسترخوان بچھایا اور بسم اللہ پڑھ کر جنوبی پکوان سے لذت آشنا ہوئے۔

حضرت کا یہ جذبہ فرواں انہیں سنت پر عمل کرنے اور کرانے کیلئے آمادہ رکھتا وہ عروس البلاد ممبئی میں قیام پذیر تھے، پردے کی اوٹ میں ایک نو منتخب خلیفہ کے کچھ بے تکلف احباب پوچھ رہے تھے آپ کیسے خلیفہ بن گئے حضرت کے؟ انہوں نے جواب دیا کبھی بزرگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، حضرت نے یہ جملہ سن لیا اور فوراً ان کو طلب کیا اور خلافت سلب فرمائی..... کس قدر ان کے قوی کام کرتے تھے اور کتنے عالی ہمت تھے معمولی معمولی چیزوں کی گرفت فرماتے، اصلاح کے دروازے کھولتے، لوگوں کو برائی کے خدشات سے روکتے، اچھائی کی معراج تک پہنچاتے۔

حضرت ہر دوئی طلبہ کی تادیبی کارروائی میں بہت حساس تھے فرماتے تھے لوگ جب غصہ کا شکار ہوتے ہیں تو طلبہ کو ایسی سزائیں دیتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، چہرہ پر مارنا سخت منع ہے ایسی ضرب جس سے نشان پڑ جائے ممنوع ہے، حضرت ہر دوئی کے زیر اثر مدارس میں طلبہ کو مارنا ممنوع تھا۔

حضرت ہر دوئی کا ایک منٹ کا مدرسہ بہت مقبول و مشہور ہوا وہ فرماتے عصر بعدیا فجر بعد ایک منٹ میں نمازیوں کو ایک آیت ایک مسئلہ ایک سنت بتا دو رفتہ رفتہ معلومات کا ذخیرہ ہو جائے گا۔

ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنی بار حاضری ہوئی ان کی محبت، ان کی توجہ اور ان کی عنایت بڑھتی اور حاضر ہونے والا گرویدہ ہو جاتا، اسے اپنے عیوب نظر آنے لگتے اور اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا اور یہی ہے بزرگوں کی مجالس میں حاضری کا مقصد، مولانا اس دور میں حضرت تھانویؒ کے طرز پر اصلاح و ہدایت کا کام کرنے والے یکہ وتہا تھے، وہ بزم اشرفی کے آخری چراغ تھے، ایک عالم کو روشن کر کے وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے اپنے پیچھے ایک ایسی جماعت ضرور چھوڑی ہے جو اس روشن راہ کو روشن رکھنے کی کوشش کرے گی۔

فیکس مشین کی ضرورت

آئینہ مظاہر علوم ایک علمی دینی اور دعوتی ترجمان ہے، اس کیلئے ایک عدد فیکس مشین کی ضرورت ہے

اہل خیر حضرات اس جانب توجہ مبذول فرما کر عند اللہ اجر و ثواب عظیم کے مستحق ہوں!

دفتر ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم (مظاہر علوم وقف سہارنپور) 0132-2653018

نگہ بلند سخن دلنواز جاں پر سوز

مولانا محمد اسلام الحق اسعدی مظاہری

حضرت مولانا ابرار الحق صاحبِ حقؑ ایک عالم ربانی مصلح اور عظیم روحانی پیشوا کی حیثیت سے پورے برصغیر کے باشندے جہاں کہیں آباد ہوئے (افریقہ انگلینڈ وغیرہ) وہاں مشہور ہوئے، ان کا طریق اصلاح عام تصوف سے ہٹ کر تزکیہ و احسان پر مبنی تھا۔

مولانا بن الاقوامی شہرت یافتہ ادارہ مظاہر علوم (وقف) سہارنپور کے فارغ التحصیل تھے اور یگانہ روزگار نابغہ عصر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے تربیت یافتہ تھے اور مئے معرفت میکدہ تھانہ بھون سے جی بھر کر پی تھی، انتہائی کم عمری میں اجازت و خلافت کے خرقہ سے نوازے گئے، حضرت تھانویؒ کا سب سے نمایاں وصف تصوف کا مجدد ہونا تھا، یہ رنگ ان کے خلفاء اور تربیت یافتہ افراد پر چڑھا ہوا تھا اور یہ قافلہ صبغة اللہ سے رنگا تھا، مولانا تھانویؒ کے سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی اور اس کارواں کے آخری چشم و چراغ تھے۔

حق کے آواز کو بلند کرنے کیلئے مولانا نے ”دعوة الحق“ نامی انجمن ہر دوئی میں قائم کی، جس کا نصب العین لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا تھا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم افراد جانتے ہیں کہ امر بالمعروف آسان ہے اور نہی عن المنکر دشوار، جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ مولانا نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا غایت درجہ اہتمام زندگی بھر فرمایا اور اس باب میں وہ کسی کی رعایت نہ کرتے۔

دارالعلوم دہلوی پابند کے صد سالہ اجلاس ۱۹۹۸ء کے موقع پر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ سے دریافت فرمایا کیا اجلاس میں تصویر سازی ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے میں شریک نہیں ہو سکتا پھر وہ چلے گئے (یا معتکف رہے)۔

مولانا نے دعوة الحق کی شاخیں پورے ملک میں قائم کیں اس کے تحت مدارس و مکاتب بھی قائم کئے، ان کی نگرانی میں چلنے والے مکاتب کی تعداد سو سے زائد ہے، جن کی تعلیم کی نمایاں صفت قرآن کریم کا تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھانا ہے، نورانی قاعدہ بڑے اہتمام سے پڑھاتے اور پڑھواتے، دور دراز علاقوں میں کمپ لگاتے، اذان و اقامت کا صحیح طریقہ تلقین فرماتے، نماز کی عملی مشق کراتے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر کام سنت

کے مطابق کرتے، سلام و مصافحہ معافقہ، رفتار و گفتار، مسجد میں آنے جانے کی سنتیں یاد دلاتے، وہ خود بہت نرم گفتار شیریں گفتار، خوش پوشاک اور نستعلیق قسم کے انسان تھے، کسی ادا سے مشیخت اور امتیاز کا اظہار نہ ہوتا، وعظ کا اسلوب بھی بہت سادہ ہوتا، لیکن وعظ میں للہیت روحانیت اور خالص یادِ خدا، ذکرِ آخرت، انابت الی اللہ اور اصلاحِ نفس، سنتوں کی تلقین، برائیوں پر تنبیہ کا رنگ غالب رہتا۔

مولانا کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اصول و ضابطہ کے بہت پابند تھے اور بنائے ہوئے معمول سے انحراف نہ کرتے، منٹ اور سکند تک کا حساب رکھتے پر یہ ضرور ہے کہ مولانا کے یہاں اس معاملہ میں لچک بھی تھی۔
مولانا کے یہاں مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ ضرورت کے مطابق دی جاتی تھی اور قرآن کریم کے اساتذہ کا بڑا احترام فرماتے اور انہیں نوازتے رہتے۔

مولانا کی اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنی تحریک سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے، آپ اعلیٰ درجہ کی فہم و ذکاوت، قوی روحانیت اور تواضع و خاکساری کے حامل تھے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خانوادے کے آخری عالم دین تھے اسی لئے حقی لکھتے تھے۔

نگہ بلند سخن دلنواز جاں پر سوز
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لئے

☆☆☆

تاریخ وفات حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ

سال فوت	عیسوی مذکورہ	برجستہ ذیل	انعام	ایں	یکدم	نبشت
مولانا ابرار الحق	عالی	حسب	ہردوئی	بودہ	در	ربہشت
۵	۰	۰	۲	۲	۲	۶
ارتجالاً	ایں	سنہ	ہجری	فوت	در	ذیل
مولانا ابرار الحق	داعی	حق	حق	شد	بہام	جناں
۶	۲	۲	۱	۱	۱	۱

از: مولانا انعام الرحمن انعام تھا قوی ناظم نشر و اشاعت مظاہر علوم وقف سہارنپور

جو میں نے دیکھا

مولانا محمد زکریا صاحب کیرانوی مظاہر علوم وقف سہارنپور

اس دنیا میں جو بھی آیا جانے کے لئے آیا، خالق کون و مکاں مالک ارض و سما کا قانون ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ اللّٰهِ کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں، ہاں جو خوش نصیب اپنی ہستی حی و قیوم کے لئے فنا کر گئے ان کو موت کے بعد حیات جاودانی عطا کی جاتی ہے دنیا میں ان کا ذکر خیر باقی رہتا ہے اور وہ آخرت میں جنت کی لازوال نعمتوں اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی سے سرفراز کئے جاتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ نے میرے شیخ حضرت محی السنۃ نور اللہ مرقدہ کو مقام قطبیت پر فائز فرمایا تھا، اصلاح مسلمین اور اعلائے دین کے حق میں ان کی قربانیوں کو حسن قبول سے نوازا، ہر طرف سے ان کی تحسین کی گئی ایک بڑی جماعت نے ان سے ایمان و یقین اور تزکیہ و احسان کی دولت حاصل کی، جو ان سے اکتساب فیض نہ کر سکے وہ اس کی تمنا میں رہے آج وہ ان کے اوصاف و اخلاق، تعلیمات و ہدایات جاننے کے مشتاق ہیں۔

حضرت محی السنۃ اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان کے نقش قدم کی پیروی کی جائے گی، ان کے نصب کئے ہوئے منار ہائے نور سے رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی ان کے روشن کئے ہوئے علم و آگہی کے چراغ سے چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔

جامعیت واعتدال: اتباع شریعت اور احیاء سنت آپ کا امتیازی وصف ہے اسی لئے آپ کو عالم قدس سے محی السنۃ کا لقب عطا کیا گیا اور آپ اسی لقب کے ساتھ مشہور ہو گئے، آپ اسم باسمی ابرار تھے بلکہ اللہ نے آپ کو کلوکار اور ابرار و اختیار کی سیادت و قیادت عطا فرما کر ایک خصوصی شرف و امتیاز سے سرفراز فرمایا تھا، نجابت و شرافت کے یہ آثار آپ کی ذات والا صفات میں بچپن ہی سے نمایاں تھے، ابتدائے آفرینش ہی سے گویا حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو سنت کی شیرینی اور اس کی چاشنی مرحمت فرمائی تھی۔ رفتہ رفتہ سنت کی یہ محبت عشق نبوی سے تبدیل ہو گئی اور اس کے صلہ میں آپ کو اوصاف نبوت میں سے وافر حصہ عطا کیا گیا۔

جامعیت واعتدال جو حضرات انبیاء کی شان ہے آپ بھی اس سے بہرہ ور ہوئے، تعلیم و تربیت حضرات انبیاء کا

وہی ہے، آپ نے بھی اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی، مجلس دعوت الحق سے وعظ و تقریر، پمفلٹ اور کتابچوں کے ذریعہ اصلاح امت کی فکر فرمائی، بیعت و ارشاد کے ذریعہ عوام و خواص کی اصلاح فرمائی، تصوف کے نکات و رموز، شریعت و طریقت اور محبت و معرفت کے اسرار بیان فرماتے، کلمہ توحید اور اذان و اقامت کی تصحیح بھی فرماتے، سنت کے مطابق نماز ادا کرنا کا طریقہ بھی تعلیم فرماتے، مشکوٰۃ شریف اور دورہ شریف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدے اور قرآن پاک کی تعلیم کا معیاری نظم بھی آپ کی توجہ کا رہین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کے بعد بھی باقی رہے۔

آپ زبان کے ساتھ عمل سے بھی تبلیغ فرماتے تھے، کھانے سے پہلے سنن طعام اور سونے سے پہلے سنن نوم کا مذاکرہ ہوتا، وضو کرتے وقت طلبہ کی نگرانی کی جاتی کہ سنتوں کے مطابق وضو کر رہے ہیں یا نہیں؟ جو سیکھا اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ بچوں پر شفقت کا عملی نمونہ یہ کہ تادیب ضربی قانوناً ممنوع قرار دیدی اور بڑوں کے اکرام کا عملی نمونہ یہ کہ جب تک علماء کو غیر علماء سے اور سفید ریش کو سیاہ ریش سے آگے نہ کر دیا جاتا مصلحتاً نہ فرماتے، صبح کو آغاز تعلیم کے وقت دعا میں سب کھڑے رہتے، علماء اور سفید ریش حضرات کے لئے کرسیاں رکھنے کا حکم فرماتے اور بعد عصر مجلس میں ان کے لئے ٹکے رکھوائے جاتے تھے۔

آپ کی توجہ دین کے تمام شعبوں کی طرف یکساں تھی کسی ایک شعبہ کی طرف زیادہ زور نہ دیتے تھے بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں استقامت اور مداومت کے ساتھ اتباع سنت کا حکم فرماتے تھے، حقیقت بھی یہی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی خوشنودی اور اپنی نجات کے لئے ضروری ہے کہ آدمی دین میں پورا پورا داخل ہو جائے اور ہر شعبہ زندگی میں سنت نبویہ کو حرز جان بنائے۔

اصول صحیحہ کے مطابق کام کرنا :- حضرت والا کے یہاں حدود کی رعایت بہت

تھی، احکام شرع کو موہوم مصلحتوں کیلئے نظر انداز نہیں فرماتے تھے مثلاً بعد نماز عشاء اعلان ہوتا تھا کہ سنتوں اور نفلوں سے فراغت کے بعد پانچ دس منٹ سیرت پاک سنانے کا معمول ہے، زیادہ ضروری نہیں جس قدر ہو سکے شرکت فرمائیں، اعلان کے الفاظ میں حدود کی کس درجہ رعایت کی گئی ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہو تو مسجد میں بلند آواز سے ذکر و تلاوت ممنوع ہے، حضرت کے یہاں مسجد میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا جاتا، ارشاد فرماتے بس اتنا ہی تو ہوگا کہ دُور والے نہیں سنیں گے قریب والے سن لیں گے، نمازی کی نماز میں خلل تو نہیں ہوگا۔

مسجد میں تعلیم قرآن کے بارے میں حضرت اس سے منع فرماتے تھے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والا مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دے، مجلس دعوت الحق سے ملحق ایک مدرسہ میں طلبہ مسجد میں پڑھتے تھے آپ نے ایک مدت مقرر

فرمادی کہ اگر فلاں وقت تک بچوں کے بیٹھنے اور پڑھنے کا انتظام مسجد سے علیحدہ نہ کیا گیا تو الحاق ختم کر دیا جائے گا۔
مجلس دعوت الحق سے ملحق مدارس کے نظام میں اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔

حضرت بار بار مجلسوں میں ارشاد فرماتے محض اخلاص کافی نہیں احکام شرع کی پابندی بھی ضروری ہے اگر کوئی شخص بعد نماز عصر بند کمرہ میں نوافل پڑھے تو اس کے اخلاص میں بظاہر کوئی شبہ نہیں مگر یہ نماز بجائے قرب الہی کے دوری کا سبب ہوگی کیونکہ بعد عصر نفل پڑھنا منع ہے۔

حضرت کے بیمار ہونے سے پہلے خدام کے ساتھ یہ ناچیز بھی بعد عشاء خدمت میں حاضر ہوتا ایک دن ارشاد فرمایا مولوی صاحب! ماشاء اللہ ہر طرف دینی جدوجہد ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کارکنان مخلص نہیں ہیں بہت بڑی تعداد مخلصین کی ہے مگر امت کی حالت نہیں بدل رہی ہے کیا بات ہے؟ خود ہی ارشاد فرمایا کام اصول صحیح کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔

حضرت کے یہاں اشرف المدارس کے علماء و مفتیان کرام پر مشتمل ایک علمی مجلس ہے، مہمان علماء اور مفتیان کرام بھی اس میں شرکت فرماتے تھے، زمانہ صحت میں حضرت بھی شرکت فرماتے، مسائل اور معاملات کی یہاں تحقیق ہوتی تحقیق کے بعد ہی معمول و اصول مقرر کیا جاتا۔

اتباع و احیاء سنت :- معرفت خداوندی، عظمت الہی اور عشق نبوی کا اثر تھا کہ آپ ہر کام میں سنتوں کا اہتمام و التزام فرماتے آپ کے یہاں گویا ہر وقت سنتوں کا مذاکرہ ہوتا رہتا، اس سے ضرورت بشریہ بھی عبادت بن جاتی اور عبادت قبولیت کے قریب تر ہو جاتی، سنت کی تعریف ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کو امت کے واسطے نمونہ قرار دیا ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلاوت کی طرف اس سے بھی زیادہ توجہ فرماتا ہے جتنی تم میں سے کوئی اپنی گانے والی خوش الحان باندی کی طرف کان لگاتا ہے اسی لئے حضرتؐ کے یہاں صحیح کلام پاک کا بہت اہتمام تھا، آداب تلاوت میں سے ایک یہ ادب بھی یاد کرایا جاتا کہ تلاوت سے پہلے یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سناؤ کیا پڑھتے ہو۔

آپ طلبہ و سالکین کو عبادت و غیر عبادت میں ہمیشہ سنتوں کے التزام، صحیح تلاوت قرآن پاک، ادعیہ ماثورہ کے اہتمام اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید فرما کر واصل بحق فرماتے اسی طریقہ سے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو واصل بحق کیا اور یہ وصول الی اللہ کا قریب ترین راستہ ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر :- ایک طرف آپ معمولی معمولی باتوں پر حوصلہ افزائی فرماتے چنانچہ اشرف المدارس کے طلبہ یہاں مظاہر علوم میں دورہ میں داخل ہوئے اور آخر سال میں حضرت کو لکھا کہ الحمد للہ کوئی حدیث بغیر وضو نہیں پڑھی۔

ایک مرتبہ حضرت نے امانت و دیانت کی نصیحت فرمائی، بعض طلبہ نے مدرسہ میں پیسہ جمع کئے کہ ہم نے فلاں وقت دودھ بلا قیمت لے لیا تھا اس کی قیمت جمع کر لیں۔

اس قسم کے واقعات بار بار بیان فرما کر اتباع سنت و شریعت کی ترغیب دیتے اسی طرح آپ لغزش و کوتاہی پر روک ٹوک ضرور فرماتے، لحاظ و مروت سے مغلوب ہوتے نہ کسی ملامت کی پرواہ فرماتے اور چونکہ آپ کی تنبیہ حکمت و شفقت کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے ناگوار بھی نہ ہوتی، جب کسی جگہ تشریف لے جاتے یا کسی کے یہاں مہمان ہوتے تو جو کوتاہی دیکھتے اس پر فوراً نکیر فرماتے، اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔

ایک حادثہ کے موقع پر یہ ناچیز حاضر ہوا، سلام کے جواب کے بعد بڑے درد بھرے لہجہ میں فرمایا آئیے کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ گویا حضرت کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف ہے، پھر لیٹے لیٹے معاف فرمایا اس کے بعد ناچیز نے دکھ بھری داستاں سنائی شروع کی اسی دوران عصر کی اذان ہو گئی میری گفتگو جاری رہی، حضرت کے چہرے پر فوراً ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا ٹھہر جائیے! اذان کی دعا کے بعد فرمایا باقی باتیں پھر ہو جائیں گی۔

بعد نماز مغرب بلوایا اور باقی بات سنی، منکر پر نکیر آپ کی طبیعت ثانیہ تھی، نہی عن المنکر کو بہت عام کرنے کی تاکید فرماتے، آپ کو اس کی بڑی فکر تھی، اکثر و بیشتر وعظ کنتم خیر امة اخرجت للناس تاصرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے شروع فرماتے اور نہی عن المنکر کی اہمیت بیان فرماتے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ عموماً فرماتے کہ نہی عن المنکر کیلئے ایک مستقل جماعت ہونی چاہئے، گناہ کبیرہ اور اس کے نقصانات یاد کراتے اور سنتوں کی طرح گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی ہر روز فرماتے، اس کے نمونہ کے اسباق کتاب ”ایک منٹ کا مدرسہ“ میں جمع فرمایا جو بہت مقبول ہوئی۔

اللہ تعالیٰ حضرت کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اپنی شایان بدلہ عطا فرمائے۔



”جب مدرسہ کا کوئی استاذ بے اصولی کرتا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے تلافی نہیں کرتا تو اسے فوراً معطل کر دیتا ہوں یہ نہیں سوچتا کہ جب دوسرا مل جائے تب معطل کروں کیونکہ میں اس بے اصولی اور اس پراصرار کو اس کی ممت سمجھتا ہوں کیونکہ حیات اصلی باقی نہ رہی، پس اگر استاذ کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے استاذ کا کیا انتظار، لیکن پہلے تو میں معطل کیا کرتا تھا اب یہ کرتا ہوں کہ مستقل سے عارضی کر دیتا ہوں کیونکہ معطل کرنے میں مفاسد زیادہ تھے اور استاذ کی سبکی تھی، پس مستقل سے غیر مستقل کر دیا جاتا ہے بے اصولی کے جرم میں استقلال ساقط پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں“۔ (محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد ابراہیم الحق حق)

”شاہ ابرار الحق مظاہری“

۵ ♦ ♦ ۲ ۶

ناصر الدین مظاہری

۱۸ مئی ۲۰۰۵ء کی صبح راقم الحروف نے اپنے وطن لکھنؤ پور کھیری سے مدرسہ کے ایک کام کے لئے اپنے رفیق مولانا محمد عارف مظاہری (آپریٹر آئینہ مظاہر علوم) کو فون کیا، انہوں نے یہ جانکاہ خبر کلفت اثر سنائی کہ کل عشاء کے وقت محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق حق کا انتقال ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

خبر کیا تھی گویا ایک بم تھا جو کانوں کے قریب پھٹ پڑا، ایسے وقت میں استرجاع پڑھنے کے علاوہ انسان کیا کر سکتا ہے، جانے والے کو کون روک سکتا ہے، اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔

اس المناک خبر کے سننے کے بعد راقم الحروف نے جمعیۃ علماء رامپور کے صدر مولانا عزیز النبی صاحب مظاہری سے فون پر گفتگو کی تو انہوں نے تفصیل بتلائی کہ

”کل عشاء سے پہلے مختصر علالت کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، ہم لوگ عید گاہ میدان میں پہنچ رہے ہیں، ناظم صاحب (مولانا محمد سعیدی) پہلے سے یہاں موجود ہیں، نماز جنازہ عید گاہ میدان میں اور تدفین خطہ صالحین میں ہوگی۔“

حضرت محی السنۃ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ ایک انسان تھے مگر ہزاروں انسانوں کی جانیں ان پر فدا..... ایک عالم دین تھے مگر علماء کی پوری جماعت ان پر قربان..... ایک روحانی بزرگ اور سلسلہ تھانوی کے آخری چشم و چراغ تھے مگر اولیاء کرام کا پورا طائفہ ان پر فریفتہ و گرویدہ..... سچ فرمایا سرکارِ دو عالم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو فرشتوں، انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ جو لوگ چشم بینا رکھتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ حضرت ہردوئی کی رحلت سے پوری دنیا یتیم ہو گئی، ان کی ذات گرامی قحط الرجال کے اس دور میں بہت اہمیت کی حامل تھی ان کی موت پوری دنیا کی موت ہے، ان کا جانا ملت اسلامیہ کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔

جہل و لاعلمی کی گھنگھور گھٹاؤں میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سیرت و سنت اور علم و روحانیت کا چراغ

لیکر نکلے ہندوستان کے مختلف گوشوں اور دور دراز خطوں میں ان کے ضوفشاں چراغ کی روشنی پہنچی، ہندوستان سے باہر ایشیاء اور یورپ کے مختلف ملکوں میں بھی حضرت ہردوئی کی تعلیمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا جس علاقہ سے ان کا گذر ہوا سنتوں کی خوشبو ویر تک اور دور تک محسوس کی جاتی رہی، انہوں نے اپنی پوری زندگی کوسنت کے ایسے سانچے میں ڈھال لیا تھا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رفتار و گفتار وغیرہ ہر چیز میں سنت کی جھلک پورے طور پر محسوس کی جاتی تھی آپ کے قول و فعل ہی سے سنت کا پتہ لگایا جاتا تھا، نیکیوں کا حکم اور برائیوں پر روک ٹوک میں وہ اپنے تمام معاصرین سے آگے رہے، منکرات و فواحش کے معاملات میں وہ کسی کی رعایت نہ کرتے تھے، اس سلسلہ میں احباب و اغیار کا کوئی فرق ان کے نزدیک نہیں تھا، اچھائیوں کا حکم وہ ہر کسی کو دیتے تھے اور برائیوں سے روکنا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کیلئے ہمہ دم و ہمہ وقت فکر مندر ہنا ان کا خاصہ تھا، سنت محمدیہ سے محبت اور اس کی ترویج و اشاعت دیدنی تھی، خلاف سنت کوئی بھی کام دیکھ کر وہ آپ سے باہر ہو جاتے تھے، اسلام کی کلیدی اور بنیادی تعلیمات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ جس انداز میں بتاتے اور سمجھاتے تھے ان سے مخاطب گرویدہ ہو جاتا تھا۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی قائم کردہ تنظیم ”دعوت الحق“ جو ایک طویل عرصہ سے گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی، حضرت ہردوئی نے اس تنظیم کے احیاء کا بیڑہ اٹھایا اور اس کے ذریعہ ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔

”دعوت الحق“ کے پلیٹ فارم سے حضرت تھانویؒ کی تعلیمات کی اشاعت، خانگی اور گھریلو معاملات کو دین و شریعت کے مطابق گزارنے کی تلقین، بچوں کو اسلامی وضع قطع اور نماز روزہ کی ہدایت، مسجدوں اور مدرسوں میں خانقاہی نظام کی داغ بیل، ہفتہ عشرہ اور ماہانہ وعظ و ارشاد کیلئے مجلسوں کا انعقاد، دینی تعلیم پر زور، معروفات کیلئے ہمہ تن کوشاں، ضرورت کی جگہوں پر مکاتب کا قیام، مستورات کو دین کی اہمیت اور اسلام کی دعوت کیلئے مستقل نظم اور دین پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت، مساجد اور مدارس میں ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کے حلقے قائم کرنے کی تلقین، حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی کتابوں کے مطالعہ کا مشورہ، سوتے جاگتے اور اٹھتے بیٹھتے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے مسنون دعاؤں کے پڑھنے کی ہدایت وہ ہر کسی کو دیتے تھے۔

ان کی تلخ اور ترش باتیں بھی لوگوں کو بھلی معلوم ہوتی تھیں اس لئے کہ ان کا ہر حکم اور ہر نکیر لوگوں ہی کی فلاح و بہبود کیلئے ہوتی تھی، ان کی ہر بات اور ہر ادا لوگوں کو اسلئے بھلی معلوم ہوتی تھی کہ ان کا قلب و ضمیر سنت نبوی کے سانچے میں ڈھلا اور حب نبوی کے صاف و شفاف آب سے دھلا ہوا تھا، حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تعلیم و تربیت اور ان کی نشوونما نے ان کو کندن بنا دیا تھا، اساطین امت اور بزرگان کالمین بھی ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے تھے، عوام و خواص کے ہر طبقے میں وہ مدوح اور مکرم تھے۔

راقم الحروف نے فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کو حضرت ہردوئی کا تذکرہ بڑے والہانہ اور عاشقانہ انداز میں کرتے ہوئے بارہا دیکھا ہے، کبھی کبھی تو حضرت فقیہ الاسلام بعض چیزوں میں حضرت ہردوئی کا حوالہ دیکر فرماتے تھے کہ مولانا اس سلسلہ میں بہت سخت ہیں۔

انہوں نے سیکڑوں چھوٹے بڑے کتابچے تصنیف فرمائے جس میں اپنے مشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ سنت نبوی کی ترویج و اشاعت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، ان کی کتاب ”ایک منٹ کا مدرسہ“ انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر موقع کی سنتوں کا بیش قیمت مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ بھی ”مجالس ابرار“ جو آپ کے مواعظ و ملفوظات کا گرانقدر مجموعہ ہے، اس میں بھی انسانیت کی فوز و فلاح کے مضامین اور ارشادات کو آپ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ نے جمع فرمادیا ہے

آپ نے ”اشرف النظام“ ”اشرف النصائح“ ”اشرف الاصلاح“ ”دافع الغم“ ”احکام تبلیغ“ ”اصول فلاح دارین“ ”اشرف الخطاب“ ”ارشادات“ ”امت کی پریشانی اور انحطاط کا سبب اور اس کا علاج“ ”اصول زریں برائے طلبہ و مدرسین“ ”اشرف الہدایات لاصلاح المنکرات“ ”اشرف الفہیم“ ”اذکار مسنونہ“ ”اصلاح الغیۃ“ اور مختلف عناوین پر چھوٹے بڑے سیکڑوں کتابچے یادگار چھوڑے ہیں۔

پورے ملک میں سیکڑوں دینی مدارس اور مکاتب کے بانی و سرپرست تھے جن میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ مصروف تعلیم رہے لیکن حضرت ہردوئی کے اخلاص و للہیت کی برکت اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے اصولوں کی بدولت کبھی مالی ابتلا نہ ہوا، چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک بار آپ نے فرمایا کہ

الحمد للہ ہمارے یہاں دعوت الحق ہردوئی کی نگرانی میں تقریباً ۱۰۰ مکاتب ہیں اور چار سو سا تہذہ و ملازمین ہیں اور اب تک تقریباً پندرہ ہزار سے زائد طلبہ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اور سولہ سوطبہ نے حفظ قرآن پاک مع التجوید مکمل کیا ہمارے یہاں بعض حفاظ کی تنخواہ علماء سے زیادہ ہے، ہمارے یہاں تنخواہ کا معیار ضرورت اور حاجت پر ہے قرآن پاک کی صحیح خدمت کا اہتمام رہتا ہے، اس کی برکت سے کبھی مالی ابتلا نہیں ہوتا حالانکہ دیرھ کروڑ سالانہ کا خرچہ ہے۔

ہمارے یہاں حفاظ کرام کو جہری نماز ہو یا سری ہو، نمازوں کی امامت ہو یا تراویح پڑھانی ہو، تجوید اور قواعد کی پوری رعایت رکھنی ہوتی ہے، بعض حضرات جہری نمازوں کے لئے تو خاص طور پر قرات کے تمام اصولوں کی پابندی کریں گے اور سری نمازوں میں سب اصول ختم کر دیتے ہیں، کیا یہ قواعد صرف جہری کیلئے خاص ہیں اگر یہ قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر ہر حالت میں اس کی رعایت ضروری ہے، تراویح میں تو عام ابتلا ہے کہ تیز پڑھنے میں تمام قواعد ہضم کر جاتے ہیں۔

اس زمانہ میں قناعت پسندی دور دور تک نظر نہیں آتی، ہمارے علما کرام بھی زہد اور قناعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا اور دنیا داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں حالانکہ طبقہ علما کو دنیا سے دور رہنا چاہئے تھا

دنیا ان کے پیچھے لگی رہتی لیکن جب انہوں نے دنیا کے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دیا تو دنیا ان سے بھاگنے لگی۔ حضرت ہردوئی کو اللہ تعالیٰ نے زہد وقناعت کی وافر دولت سے نوازا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ نہ چندے کا انتظام، نہ سفراء کا بندوبست، نہ رسید بکیں، نہ فہرست چندہ دہندگان، پھر بھی سیکڑوں مدارس اور مکاتب کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ چلاتے رہے کہ کبھی کسی مالی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑا۔

یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمعیل کو آداب فرزند کی حقیقت یہ ہے کہ جو مدرسہ بھی قناعت پسندی کا مظاہرہ کرے گا غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کرے گا، یہی حضرت تھانویؒ کی تعلیمات تھیں اور یہی حضرت محی السنۃ کی تعلیمات رہیں اور آپ نے اپنے مرشد کی طرح اس پر عمل کر کے بھی دکھلادیا۔

ان کی ایک پاکیزہ عادت یہ تھی کہ وہ قرآن کریم کے اعجاز و اعزاز کو خوب سمجھتے تھے اس کے مقام و مرتبہ کا ہمہ وقت خیال رہتا تھا حتیٰ کہ ان کے مدرسہ میں آنے والی نئی دریاں اور نئی چٹائیاں پہلے حفظ اور ناظرہ کے درجات میں بچھائی جاتیں وہاں مستعمل ہونے کے بعد وہ چٹائیاں درجات عربی و فارسی میں بچھی جاتی تھیں۔

ان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے لئے بہترین قاری اور ماہر اساتذہ کا نظم کرتے تھے، ان کو معقول مشاہرہ دیتے تھے، حفظ اور ناظرہ کے بچوں پر خوب محنت فرماتے تھے، جس کا ثمرہ بھی ہر چشم بینا کو نظر آتا تھا کہ وہاں کے پڑھے ہوئے حفاظ و قراء کی دور دور تک مانگ تھی اور سند کیلئے یہ بتانا ہی کافی ہوتا کہ وہ ہردوئی کا پڑھا ہوا ہے، الحمد للہ ہردوئی کا پڑھا ہوا کہیں بھی ہچکچاہٹ اور مرعوبیت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہاں کا تعلیم یافتہ عموماً پورے مجمع اور پوری جماعت پر بھاری اور حاوی ہوتا ہے۔

پاکستان کے ایک دولت مند رئیس نے ہوائی جہاز کے ذریعہ حضرت ہردوئی اور ان کے تمام طلبہ و اساتذہ کو بلانا چاہا، داعی کی خواہش تھی کہ حضرت مدرسہ سمیت پاکستان تشریف لے آویں، اس کے لئے پاکستان میں رئیس مذکور زمین دینے کو بھی تیار تھا لیکن حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ کا حکم ہوا کہ یہیں ہندستان میں رہ کر دین کی خدمت کرو چنانچہ چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین و شریعت کا وہ کام آپ کی ذات گرامی سے لیا جس کو ایک جماعت اور ایک طاقتور مل کر بھی شاید اس خوبی اور خوش اسلوبی سے سرانجام نہ دے پاتا جس طرح حضرت محی السنۃ نے انجام دے دیا۔

آپ کی رحلت سے یوں تو سارا عالم ہی رنجیدہ و افسردہ ہے لیکن ہم اہل مظاہر کیلئے اسلئے زیادہ افسوسناک ہے کہ حضرتؒ یہیں کے پڑھے ہوئے اور یہیں کے فارغ التحصیل تھے، افسوس کہ مظاہر علوم اپنے اس فرزند گرامی سے محروم ہو گیا جس پر صرف مادر علمی ہی کو ناز نہ تھا بلکہ ان کے وجود باوجود سے پوری دنیا کو ناز تھا۔

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں

تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

☆☆☆

دینی و عصری علوم کا حسین امتزاج

طاہر اسلامک اکیڈمی

زیر اہتمام

حضرت مولانا محمد طاہر مظاہری مدظلہ

نگراں مکاتب جمعیت علماء ہند

بیادگار

فقہ الاسلام

حضرت مولانا مفتی مظفر حسین نور اللہ مرقدہ

زیر انتظام

طاہر اسلامک ایجوکیشنل سوسائٹی

اغراض و مقاصد

- ☆ طلبہ و طالبات کے اندر ایمان کی پختگی اور عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش
- ☆ قرآن و حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم سے نئی نسل کو روشناس کرنا
- ☆ دینی و عصری تعلیم کے ذریعہ ایمان و اسلام کی تبلیغ کرنا
- ☆ گاؤں درگاؤں ایسے مدارس و مکاتب کا قیام جن میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم بھی دی جاسکے۔

امتیازات و خصوصیات

- ☆ سنت نبوی کے مطابق تربیت
- ☆ تجربہ کار باصلاحیت اساتذہ کرام کی خدمات دستیاب
- ☆ شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈریس
- ☆ بچوں پر انفرادی توجہ اور مکمل ڈسپلن
- ☆ قرآن شریف، دینیات اور اردو کی تعلیم کا معقول نظم
- ☆ مکمل تعلیم بذریعہ بلیک بورڈ

ادارہ کی تعمیر و ترقی آپ حضرات کے تعاون پر منحصر ہے، بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لئے دامن درمے قدمے سخنے ہمارا تعاون فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

چیک / ڈرافٹ اور منی آرڈر ذیل کے پتہ پر بھیجیں

(مولانا) محمد مبین اختر مظاہری

مدیر طاہر اسلامک اکیڈمی، چوک گاڑان، عید گاہ روڈ، قصبہ بہٹ، ضلع سہارنپور یوپی

حضرت ہر دوئیؒ کا اصلاحی طریق

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی صفات حسنہ سے نوازا تھا وہیں منکرات پر روک ٹوک، معروفات پر خصوصی توجہ اور دین کی اہم اور پیچیدہ باتوں پر خصوصی دھیان دینے کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا، ایسی ایسی باتوں پر گرفت فرماتے تھے کہ عموماً انسانی ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت تھانویؒ آخری خلیفہ محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں صفات سے نوازا تھا جو ان کے پیرومرشد کے اندر موجود تھیں، آپ کے دل میں سارے جہاں کا درد مضمر تھا، وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کیلئے ہمیشہ فکر مند رہے، جن لوگوں کو دعوتی اور اسلامی و اصلاحی کاموں کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ دعوت کے میدان میں امر بالمعروف سے زیادہ نہی عن المنکر کا کام مشکل اور کٹھن ہے، حضرت ہر دوئیؒ نے اپنی پوری زندگی انہی دونوں کاموں میں صرف فرمادی۔

محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے بقول

”حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی نسبت جذب نے ان کو اپنا مجذوب بنا کر ان کی زبان کو اپنے پر کیف مواعظ سنانے کے لئے انتخاب فرمایا“

عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب خلیفہ حضرت تھانویؒ کا ارشاد ہے کہ

”میرے محترم برادر عزیز مولانا ابرار الحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی اوصاف سے نوازا ہے، ماشاء اللہ عالم، حافظ، قاری اور ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں، موصوف نے تحصیل علوم درسیہ کے بعد اپنی ساری عمر اشاعت دین اور اصلاح امت کیلئے وقف کردی ہے اور بہت سے مدارس دینیہ بعون اللہ تعالیٰ قائم کئے ہیں اور نمایاں ترقی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ مواعظ اور ملفوظات سے بھی مسلمانوں کو مستفیض فرماتے رہتے ہیں ان کے ملفوظات میں ہمارے حضرت والا کا مذاق اور مسلک کا رنگ جھلکتا ہے اور ”از دل خیزد بر دل ریزد“ والا اثر محسوس ہوتا ہے“

۱۔ حضرت تھانویؒ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب جہلمؒ تھے، حضرت مولانا ہر دوئیؒ کو حضرت مولانا فقیر محمد جہلمؒ سے پہلے خلافت ملی تھی۔ بعض حضرات کا یہ تصور کہ ترتیب کے حساب سے حضرت ہر دوئیؒ حضرت تھانویؒ کے آخری خلیفہ ہیں یہ غلط ہے۔ (ناصر)

حضرت بابا نجم احسن صاحب گرامی جو حضرت تھانویؒ کے مجاز صحبت ہیں ان کا ارشاد ہے کہ
 ”محبت عزیز صاحب جمال حضرات ابرار اور فدائے سنت سیدالابرار علیہ السلام مولانا ابرار الحق صاحب
 متعنا اللہ له بطول بقائه کا دیدار برسوں بعد نصیب ہوا ان کے محاسن اور کمالات ذاتی کے علاوہ وہ وقت
 یاد آ گیا جب تھانہ بھون میں انہیں چٹکتی کلیوں یا گل نو بہار کی کیفیت میں دیکھا تھا اور یہاں جب گل و گلزار کی شان
 دیکھی تو طبیعت وجد میں آگئی، بیان، حسن بیان، طرز بیان، جاذبیت، حسن ادا میں ناکارہ کیا بیان کر سکتا ہے۔“

ع۔ بسیار شیوہاست حسیں را کہ نام نیست

کا معاملہ ہے پھر بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ بزم اشرف کے اس آفتاب ضیاء فروز کو دیکھ کے دل میں بے ساختہ یہ آیا کہ

ع۔ بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسے را

بیان اور حسن بیان سے قطع نظر ماشاء اللہ علمی و عملی شانیں اور آرائیں یہی نہیں کہ خاص ابراری انداز
 رکھتی ہیں بلکہ ان کی نافعیت ان شاء اللہ یقینی ہے پھر ایک خاص شان یہ ہے کہ مصلحانہ انداز میں کوئی
 ضعف و رعایت نہ ہونے کے باوجود اس سے سرور اور نفع دونوں حاصل ہوتے ہیں۔“

حضرت علامہ ظفر احمد عثمانیؒ نے حضرت ہردوئیؒ کی فراغت کے بعد ان کے تقرر کیلئے مدرسہ جامع العلوم کانپور
 کے ارباب حل و عقد کے نام سفارشی مکتوب گرامی میں بہت کھلے لفظوں میں تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ
 ”بہت دیندار اور ذی استعداد..... حافظ وقاری..... تقویٰ و طہارت علم و عمل میں اپنے ہم عصروں
 اور ہم سروں میں بہت ممتاز ہیں“

اس گرانقدر مکتوب گرامی پر حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے بھی تائیدی دستخط ثبت فرمائے تھے۔
 فقیہ امت حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب احسن الفتاویٰ لکھتے ہیں کہ
 ”حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص شان اصلاح سے نوازا ہے اور پھر اصلاح
 امت کے کام کو ان کیلئے اس طرح درودل بنا دیا ہے کہ اسکی مثال ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتی۔“

رہبران قوم نے نبی عن المنکر کے فریضہ کو تو ایسا بھلا دیا ہے کہ گویا یہ حکم سرے سے شریعت میں ہے
 ہی نہیں اس سے بھی بڑھ کر منکرات کی مجالس میں علانیہ شرکت بلکہ اپنی مجالس میں منکرات کی کھلی چھوٹ
 دے کر عوام کو فتنہ اباحت میں مبتلا کر دیا ہے۔“

میں اطراء فی المدح اور کسی کی مدح کے ضمن میں تنقیص غیر سے پناہ مانگتے ہوئے یہ کہے بغیر
 نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح منکرات کا جو کام حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے لے رہے ہیں وہ
 آج دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا پھر نبی عن المنکر کے جذبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن بیان اور ایسی
 شان جاذبیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی نکیر باعث تنفیر نہیں بنتی بلکہ منکرات کا قبح قلوب کی گہرائیوں
 میں اتر جاتا ہے، یہ دل کی تڑپ اور اخلاص و قبول کی علامت ہے۔“

فقہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ

”اگر حق تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لیکر آئے ہو؟ تو کہہ دوں گا کہ ”صدیق و ابرار کو لایا ہوں“

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی احسنی الہندویؒ نے فرمایا کہ

”مولانا ابراہیم الحق صاحب بڑے صاحب عزیمت داعی الی اللہ شیخ ہیں“

حضرت مولانا عاشق الہی مظاہری بلند شہری نے گواہی دی کہ

”آپ اپنے وقت کے اسمعیل شہید ہیں“

عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندویؒ اگرچہ معاصر تھے لیکن جس طرح آپ کا احترام و اکرام اور عقیدت و محبت کا معاملہ کرتے تھے اس سے ہر دو بزرگوں کے علوم مرتبت اور تواضع کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

امر بالمعروف کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح امر بالمعروف کا اہتمام سے جگہ جگہ کام ہو رہا ہے نہی عن المنکر کا بھی تو اہتمام سے کام ہونا چاہیے دونوں ہی فرض کفایہ ہیں، آج کل برائیوں پر روک ٹوک نہ ہونے سے برائیاں تیزی سے پھیلی جا رہی ہیں، جماعتی حیثیت سے اس کا کام بھی ہونا چاہیے۔

ایک بار دوران گفتگو سنت کا ذکر چل پڑا تو فرمایا کہ جن سنتوں پر خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا ان پر فوراً عمل شروع کر دینا چاہئے، جیسے کھانے پینے کی سنتیں، سونے جاگنے کی سنتیں وغیرہ تو اس سے نور پیدا ہوگا اور نور سے روح میں قوت پیدا ہوگی اور پھر ان سنتوں پر عمل کی توفیق ہونے لگے گی، جو نفس پر مشکل ہے اور معاشرہ اور ماحول میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔

اگر چائے میں مکھی گر جائے تو اپنی پیالی سے بھی نکال دیں گے اور بڑوں کی پیالی سے بھی نکال دیں گے اور اپنے دوستوں کی پیالی کو مکھیوں سے پاک کر دیں گے، جسمانی مکھی سے تو اس قدر احتیاط اور ہمارے گھروں میں اور دوستوں کے اندر جو منکرات کی مکھیاں گھس رہی ہیں ان روحانی مکھیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں سب لوگ دوستی کا حق سمجھ کر خاموش رہتے ہیں، وہاں تو دوستی کا حق یہ تھا اور یہاں دوستی کا یہ حق ہے کہ بچہ دوزخ میں جائے مگر انگریزی بال اور جاندار تصویر سے نہ بچا جائے، سنیما اور تمام برائیوں سے روک ٹوک نہ ہو۔

کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے

کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں

آج کل بعض جاہل بے عمل اور بے نمازی پیروں نے قوم کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، عبادات اور

معاملات میں صفر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور ولی اللہ بتلا کر قوم کو الو بناتے ہیں، ایسے حضرات کے لئے ہمارے حضرت ہر دوئی فرمایا کرتے تھے کہ غیر متبع سنت جو ہوا پر اڑنے والا ہے وہ استدراج میں مبتلا ہے اور متبع سنت سے افضل نہیں ہو سکتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وزیر اعظم ہوائی جہاز میں اڑ نہیں سکتا مگر ایک پائلٹ جہاز اڑا کر وزیر اعظم کو بھی بٹھا کر سفر کرا سکتا ہے تو درجہ کس کا افضل ہے؟ بعض وقت ہوائی جہاز اڑانے والا غیر مسلم ہوتا ہے اور اس ہوائی جہاز پر بیٹھنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔

احقر کی ایک جگہ دعوت تھی بس ایک صاحب نے چالاکی سے نوٹو کھینچ لیا اچانک روشنی سے میں سمجھ گیا پہلے تو انہوں نے دھوکہ دینا چاہا کہ یہ روشنی جو ہوئی ہے کیمرہ کی نہ تھی، بجلی کا بلب فیوز ہوا، یا بجلی کا تار خراب ہو گیا، میں نے کہا کہ کیمرہ مجھے دیجئے میں نے اس پر قبضہ کیا اور کہا کہ پوری ریل اس کی میرے سامنے ضائع کرو، ورنہ میں اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھوں گا اور نہ اس وقت کھانا کھاؤں گا اور ابھی واپس جاتا ہوں، بس سب کا مزاج ٹھیک ہو گیا، ۳۲ روپیہ کی تمام ریل تباہ کی ہو گئی زندگی بھر کیلئے سبق مل گیا، آج روک ٹوک کی کمی سے برائیاں سیلاب کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں، ہم لوگوں میں منکرات پر نکیر اور روک ٹوک کی اہمیت باقی نہ رہی، اپنی اولاد کو ایک مکھی جو چائے کی پیالی میں پڑ گئی نگلنے نہ دیں گے لیکن گناہوں کے روحانی سانپ ان کے پیٹ میں داخل ہو جائیں سب گوارا ہے۔

میرے دوستو! اسباب رضا اختیار کیجئے اور وہ حق تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے، اور اسباب رضا کی ضد سے بھی بچئے اور وہ نواہی یعنی معاصی سے بچنا ہے، پھر دیکھئے کیا انعامات عطا ہوتے ہیں، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ

تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے

تو ہی ہمت ہار ہے ہاں تو ہی ہمت ہار ہے

ہر قدم پر تو جو رہو کھارہا ہے ٹھو کریں

لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے

سختی سے نہ ڈر ہاں ایک ذرا ہمت تو کر

گامزن ہونا ہے مشکل راستہ مشکل نہیں

کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک

ابتداء کرنا ہے مشکل انتہاء مشکل نہیں

میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کا راستہ اسہل، اجمل اور اکمل ہے مثلاً ہاتھ دھو کر کھانا یہ اجمل ہے، سامنے

سے کھاویہ اہل ہے، بسم اللہ و علی برکتہ اللہ کہہ کر کھاؤ تو یہ اکمل ہے کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوگا۔

پردہ کے سلسلہ میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متشدد تھے، دوران گفتگو فرمایا کہ: ”لڑکوں کی کہنی اگر کھلی رہے تو نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہوتی ہے اور لڑکیوں کی کہنی اگر کھلی رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی لیکن معاملہ کیا ہے کہ والدین لڑکوں کی آستین پوری بناتے ہیں اور لڑکیوں کی کہنی بھی کھلی رکھتے ہیں، کیا حال ہے؟ افسوس کا مقام ہے، اسی طرح لڑکا ننگے سر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی اور لڑکی ننگے سر نماز پڑھے تو نماز ہی نہ ہوگی مگر والدین کا کیا حال ہے کہ لڑکے کے سر پر موٹی موٹی ٹوپی اور لڑکی کے سر پر باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی صاف نظر آتی ہے اور اب تو یہ دوپٹہ بھی غائب ہو رہا ہے رُبُّ کَاسِیَاتٍ عَارِیَاتٍ اب تو ایسا باریک لباس لڑکیوں کا ہو رہا ہے کہ نام لباس کا ہے مگر درحقیقت ننگی ہیں افسوس کا مقام ہے۔

عورتیں اس قدر موٹا دوپٹہ استعمال کریں جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے ورنہ نماز بھی نہ ہوگی اور جتنے لوگ نامحرم اس کے بالوں کو دیکھیں گے سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا اکٹھا کر کے اس پر لا دیا جائے گا، عورتوں کے ناخن پالش لگانے سے وضو صحیح نہ ہوگا اور جب وضو نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی۔

قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلہ میں فرمایا کہ گھڑی خراب ہو جائے تو شہر میں جو سب سے زیادہ ماہر ہوگا اس کے پاس جاویں گے اور بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم کے لئے سستا استاد تلاش کریں گے، چاہے وہ کیسا ہی غلط سبط پڑھتا ہو رب قاری یقرء القرآن والقرآن یلعنہ بعض لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن پاک کے لئے فن تجوید کے ماہر کو استاد بنانا چاہئے۔

آج کل عموماً دوکاندار حضرات اپنی دوکانوں میں ٹی وی وی سی آر رکھتے ہیں جس سے خود تو گناہگار ہوتے ہی ہیں آنے جانے والے خریدار حضرات بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ آج کل دوکاندار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو آمدنی کی زیادتی کا سبب سمجھتے ہیں حالانکہ دن بھر جتنے لوگ اس دوکان پر گانے اور عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گناہ کرتے ہیں وہ سب جمع کر کے اس دوکان دار کی گردن پر ڈالا جاوے گا تب اس کو اپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا، زبان سے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے اور پھر گناہ کر کے خدا کی ناراضگی سے بڑھا رہے ہیں۔

تقریر فروش واعظین کی اس دور میں کمی نہیں ہے، سفر کی لاگت اور کرایہ لینے میں تو کوئی قباحت نہیں لیکن اس سے زائد لینا بہر حال غلط ہے، ہمارے حضرت ہردوئی نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جب کہیں وعظ کے لئے

کسی عالم کو دعوت دی جائے تو اہل علم کو یہ شرط لگانا چاہیے کہ کوئی ہدیہ نقد یا کسی صورت میں ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ معاوضہ کی صورت سے بچنا چاہئے ابعوا من لا یسئلكم اجرا پر عمل ہونا چاہیے اور اس سے سامعین کو اتباع کی توفیق بھی ہوتی ہے جب اخلاص ہوتا ہے تو اثر بھی ہوتا ہے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ وعظ کی ملازمت تو جائز ہے جیسے امامت جائز ہے مگر وعظ پر اجرت ٹھہرانا اس طرح کہ نماز بعد وعظ کہوں گا اور پانچ سو روپیہ لوں گا یہ حرام ہے اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کوئی کہے کہ میں نماز ظہر پڑھاؤں گا مگر پچیس روپے لوں گا بس ایک وعظ پر روپیہ ملے کرنا جائز نہیں ہے، مستقل ملازمت بوجہ جس وقت فقہاء نے جائز فرمایا ہے۔

راقم الحروف نے اپنے استاذ فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کو بارہا دیکھا کہ جب ان کو کسی جلسہ میں جانے کی ضرورت پڑی، کسی مدرسہ کی بنیاد کیلئے مدرسہ میں جانا ہو یا کسی مدرسہ میں بخاری شریف کے افتتاح و اختتام کیلئے جانے کی نوبت آئی اور اہل مدرسہ نے بند لافہ پیش کرنا چاہا تو حضرت نے اول تو اس کو لینے سے انکار فرمادیا اور زیادہ اصرار پر متعلقہ مدرسہ کی رسید منگوا کر رسید کٹوالی۔

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر
انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

☆☆☆

اپیل و دعائے مغفرت

علمی اور دینی حلقوں میں یہ خبر کلفت اثر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ جامعہ ہذا کے ممتاز و ہونہار فاضل جناب مولانا وسیم احمد صاحب سنسار پوری شیخ الحدیث مدرسہ اشرف العلوم گنگوہ ضلع سہارنپور کی بیچی کا گزشتہ ماہ مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب ناظم مظاہر علوم (وقف) نے مولانا کے نام تعزیتی مکتوب میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔

ادارہ بھی مولانا موصوف سے اظہار تعزیت کرتا ہے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔
قارئین کرام سے مرحومہ کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی اپیل ہے۔

(ادارہ)

آہ! حضرت ہر دوریؒ

حافظ محمد قاسم الواضی مظاہری

ابرار شاہ اشرفِ دوراں نہیں رہا

افسوس ہے کہ چشمہ عرفاں نہیں رہا

ماضی ایسی نارنج ہے جس سے افراد، جماعتیں اور اقوام اپنا مستقبل روشن اور تابناک کرتی ہیں اور آئندہ کے لئے ترقی کا لائحہ عمل طے کرتی ہیں کسی نے سچ کہا کہ جو اقوام اپنا ماضی یاد نہیں رکھتیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں، لہذا افراد اور اقوام کو اپنی حیات کو دوام بخشنے کے لئے اپنے ماضی کو یاد کرتے رہنا ضروری ہے۔ ماضی کیا ہے؟ ماضی یہی ہے کہ اپنے پیش روں، بڑوں اور بزرگوں کی زندگی ان کی جہد مسلسل اور علمی روحانی چشمہ سے سیرابی حاصل کی جائے، اس طرح بہت سی الجھنوں کا انسداد ہو جاتا ہے، یہ خداوند قدوس کا اس امت پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس کے آغاز سے لے کر ابھی تک اس کا امتیاز علم سے اور ذہانت سے مزین رکھا، خود ہندوستان میں اس کی ایسی تابناک مثالیں ہیں جن کا اعتراف ہر چہارسو کیا گیا، اسلامی تاریخ میں ایسے افراد ملتے ہیں جنہوں نے وقت کے دھارے کو تنہا اس طرح موڑ دیا جس کی مثال دوسری اقوام کی تاریخ میں محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

انہی تابندہ پاک نفوس میں ایک معتبر اور مقدس نام محی السنۃ حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحبؒ کا ہے آپ کی زندگی کی شمع جس کی ۸ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ مطابق ۷ مئی ۲۰۰۵ء بروز منگل تک جھلملاتی رہی، یکا یک موت کے ایک جھونکے سے ہمیشہ کے لئے گل ہو گئی، لیکن وہ اہل اسلام کی نگاہوں میں جگمگاتے رہیں گے، یادوں کی شمعیں کبھی گل نہیں ہوتیں۔

حضرت محی السنۃ علیہ الرحمۃ کی شخصیت نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے موجب افتخار تھی آپ کا شمار دنیاۓ اسلام کے چند گنے چنے رہنماؤں میں ہوتا تھا، آپ کی ہستی میں خلوص و شفقت، عظمت و وقار، حلم و عفو، عزم و ہمت، عجز و فروتنی، صبر و استقلال غرض یہ کہ شریعت و طریقت کے تمام جوہر کچھ اس طرح یکجا ہو گئے تھے کہ ایک فرد میں ان خصوصیتوں اور کمالات کا اجتماع مشکل ہی سے ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگی کی خصوصیات کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا، غرض یہ کہ آپ کی ذات والا صفات اس آخری دور میں اپنے اسلاف کرام کی طرح مجموعہ کمالات تھی، آپ کی شخصیت مبارکہ میں خداوند قدوس نے مختلف تنوع و اوصاف حسنہ کو سمیٹ کر رکھ دیا

تھا، آپ کی ذات بہ نفس نفیس انجمن بن گئی تھی، آپ بیک وقت بزم علم و عرفان کی شمع روشن اور محفل ارشاد و ہدایت کے صدر نشین، میدان علم کے شہ سوار، غرض علم و عمل کی جملہ خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ شخصیت آپ کا وجود گرامی بن کر رہ گیا تھا، اس ابر کرم سے ہر طالب تحقیق بقدر استعداد فیض یاب اور تشنہ کام معرفت بقدر ظرف و پیمانہ سیراب و شاداب ہوتا تھا لیکن حضرت محی السنۃ کی تواضع و فروتنی، انکساری و خاکساری، سادگی و بے نفسی ان سارے کمالات کے لئے پردہ پوش بن کر ظاہر میں نگاہوں کو دھوکہ ڈالے رکھتی تھی۔

آپ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علیؒ کی طرح سرگرم رہتے تھے، بسا اوقات آپ کی شخصیت عظیم کا سمجھنا دشوار و ناممکن ہوتا تھا، علوم و معارف کے وہ خزانے جو قدرت نے آپ کے اندر محفوظ کئے تھے اور تحقیق و تدقیق کے وہ جواہر عالی جو آپ کی فطرت میں ودیعت تھے بہت کم ظاہر ہوتے، بہت ہی کم چمکتے اور ان کی جودت نگاہوں کو خیرہ کر سکتی۔

حضرت علیہ الرحمہ کے انتہائی خلوص کی ایسی برکتیں کہ آپ کی سیدھی سادی باتیں بھی ہزاروں قلوب پر رقت طاری کر دیتی تھیں اور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھیں اور آپ کے ایک مخلصانہ اشارے پر انسان اپنی زندگی بھر کی بری عادتیں چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا تھا اور آپ کی شفقتانہ شفقت اس کی کایا پلٹ کر اس کو بہت جلد راہ راست پر لے آتی تھی، یہی انسان کے خلوص کی کھلی دلیل اور بین ثبوت ہے اور انسان کے علم و عمل کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچے یعنی خود ایک آفتاب علم و عمل بن کر اپنی شعاعوں سے دوسروں کو بھی منور کرے اس کا مدار اس کی اپنی روحانیت پر ہے جب اپنے صحیح علم و عمل سے خود اس کے قلب میں روحانیت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عکس مقابل پر پڑے بغیر نہیں رہتا اور اس کا ماحول بھی مستفید ہو جاتا ہے اور یہی ایک دلیل اور سند بن جاتی ہے اس کے صفائے قلب اور نورانیت روح کی جو ایک بیش قیمت انعام خداوندی ہے علم و عمل والے کے لئے اور یہی عند اللہ اس کی مقبولیت کی دلیل بھی ہے۔

کون نہیں جانتا کہ آپ کے روحانی فیوض کی شعائیں آج بھی ہندوستان سے گذر کر دیگر ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں، گویا آپ جہاں ایک طرف علوم و فنون میں اس دور کے غزالی و رازیؒ تھے تو دوسری طرف میدان طریقت اور خانقاہ تصوف کے جنیدؒ و شبلیؒ تھے، چنانچہ جس طرح آپ کے علمی فیوض سے فیض یافتگان کی تعداد بیشمار ہے اسی طرح آپ کے روحانی فیوض سے فیض پانے والوں کی تعداد شمار و حساب سے خارج ہے، وہ مریدین اور متوسلین جو دنیا کے گوشہ گوشہ میں آپ کی ہدایات پر کار بند ہو کر سچے دیندار پابند صوم و صلوة اور ذاکرین کی یاد تازہ کر رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے بھی متجاوز ہے، جس نے بھی ایک دفعہ آپؒ کے دست مبارک پر سچی توبہ کر لی پھر اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل جاتا تھا، حضرت تشریف لے گئے لیکن ان کے انوار و برکات سے تابناکی ملتی رہے گی۔

نہیں ہے پیر میخانہ مگر فیضان باقی ہے

ابھی تک میکدہ سے بوئے عرفانی نہیں جاتی

حضرت محی السنۃؒ اور حضرت فقیہ الاسلامؒ

قدیم تعلقات اور دیرینہ مراسم پر ایک نظر

ناصر الدین مظاہری

مظاہر علوم وقف کو جن لائق فائق فرزندوں اور سپوتوں پر ناز ہے، محی السنۃ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحقؒ کا نام نامی اس فہرست میں اپنی مخصوص شناخت رکھتا ہے۔

مظاہر علوم (وقف) کے ناظم فقیہ الاسلامؒ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سے محی السنۃ حضرت اقدس مولانا ابرار الحقؒ کی محبت و شفقت کئی وجوہ سے تھی۔

(۱) محی السنۃ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحبؒ کے اساتذہ میں حضرت مفتی سعید احمد اجڑوئیؒ کا اسم گرامی بھی ہے جو حضرت فقیہ الاسلامؒ کے والد ماجد تھے۔

(۲) شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ اور حجتہ الاسلام حضرت مولانا خدیم اسعد اللہؒ کی مقدس نسبتیں جن سے حضرت فقیہ الاسلامؒ گوشا گردی کے علاوہ بیعت و ارادت کا بھی تعلق تھا (۳) تیسری سب سے اہم وجہ مظاہر علوم سہارنپور کی نظامت تھی جو حضرت مولانا ہردوئیؒ کی مادر علمی ہے۔

جس وقت مظاہر علوم ہنگامی دور سے گذر رہا تھا اور کچھ شریکین عناصر نے مدرسہ کے احاطہ دار جدید پر جابرانہ و غاصبانہ قبضہ کر کے مدرسہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہی اس وقت حضرت فقیہ الاسلامؒ کی ذات منبع برکات ایسی تھی، جس نے مظاہر علوم کے تشخص اور اس کے تقدس کو محفوظ و مامون رکھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بزرگوں سے رابطہ رکھا ان سے مشورے طلب کرتے رہے، دینی مدارس کی وقف علی اللہ والی حیثیت کو داغدار نہ ہونے دیا، اپنے موقف پر مضبوطی سے جمے رہے، بزرگوں کی تائیدات، اکابر کے مشورے، بڑوں کی رہنمائی، موقف کی سچائی اور حضرت مفتی صاحبؒ کے سوز و دروں ہی کا نتیجہ ہے کہ حق واضح ہوا اور وہ لوگ جو اول مغالطہ اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے بعد میں حق واضح ہو جانے پر وہ بھی حضرت فقیہ الاسلامؒ کے موقف ”وقف علی اللہ“ کی تائید کرنے لگے۔

اللہ تعالیٰ محی السنۃ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحبؒ قدس سرہ کو مقام بلند نصیب فرمائے، ان کا دل

شیشہ کی طرح صاف و شفاف تھا، اُس پر آشوب دور میں بھی جب حضرت فقیہ الاسلامؒ نے اپنے مکاتیب و مراسلات اور خصوصی نمائندوں کے ذریعہ رہنمائی و سرپرستی چاہی تو حضرت ہردوئیؒ نے نہ صرف دعاؤں اور مشوروں سے نوازا بلکہ اپنے بعض مکاتیب میں اپنی خصوصی توجہ اور دعاؤں کا بھی یقین دلایا اور فرمایا ”اگر اہلیت شرط نہ ہو تو خدمت سے انکار نہیں۔“

حضرت فقیہ الاسلامؒ چونکہ ایسے ادارہ کے ناظم و متولی تھے جو حضرت ہردوئیؒ کا مادر علمی تھا پھر حضرت فقیہ الاسلامؒ استاذ زادے ہونے کے باوصف ایسے برگزیدہ حضرات کے پروردہ تھے جو اپنی ذات میں انجمن تھے اور انہی کے حسب ایماء و حسب الحکم منصب نظامت کو قبول کیا تھا ان بزرگوں میں قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ اور حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد اسعد اللہ پیش پیش تھے اس لئے حضرت ہردوئیؒ نے حضرت مفتی صاحبؒ سے برابر تعلق رکھا، مدرسہ اشرف المدارس کے سلسلہ میں جب کبھی نئے اصول و قوانین بنانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت مفتی صاحبؒ سے رجوع کر کے مظاہر علوم کا دستور العمل اور آئین معلوم کیا، طلبہ کے داخلے کے قواعد اور ضوابط وغیرہ کی معلومات حاصل کرتے رہے، مظاہر علوم میں اپنے بعض شاگردوں اور متعلقین کو داخل کراتے رہے اور ان کے داخلوں کے لئے سفارشی خطوط بھی تحریر فرماتے رہے۔

حضرت فقیہ الاسلامؒ نے ایک بار حضرت ہردوئیؒ کو مدرسہ مظاہر علوم کا سرپرست اور رکن شوریٰ بنانا چاہا تو حضرتؒ نے ازراہ تواضع یہ کہہ کر انکار فرمادیا کہ

”مظاہر علوم ہمارا مادر علمی ہے اس لئے اس کا سرپرست بننا اچھا معلوم نہیں ہوتا البتہ جب کبھی یاد کیا جائیگا

لیک کہوں گا، مشوروں سے دریغ نہ کروں گا۔“

حضرت مولانا ابرار الحق صاحبؒ حضرت فقیہ الاسلامؒ سے بہت شفقت فرماتے تھے اور جب کبھی سہارنپور و مضافات میں آنا ہوتا تو مادر علمی مظاہر علوم (وقف) سہارنپور کو بھی اپنے قدم مہینت لزوم سے نوازتے تھے، حضرت فقیہ الاسلامؒ بھی بغرض ملاقات ہردوئیؒ حضرت محی السنۃؒ کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتے تھے، دونوں بزرگوں میں جو دیرینہ روابط اور قدیم مراسم تھے وہ دیکھنے کے لائق تھے، حضرت محی السنۃؒ کی حاضری پر حضرت فقیہ الاسلامؒ مسند اہتمام سے ہٹ جاتے تھے اور حضرت محی السنۃؒ سے درخواست کرتے کہ مسند پر تشریف رکھیں۔

ایک بار حضرت فقیہ الاسلامؒ کی عصر بعد مجلس جاری تھی اچانک حضرت ہردوئیؒ مدظلہ تشریف لے آئے مجلس میں شریک رہے اور چلتے وقت بطور ہدایت فرمایا کہ یہ معمول جاری رکھنا۔

بزرگوں کا احترام اور ان کی زیارت و ملاقات سے حضرت فقیہ الاسلامؒ قلمی و روحانی سکون محسوس ہوتا تھا، ایک بار حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھیؒ، علی گڑھ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کی اطلاع حضرت فقیہ الاسلامؒ

کو سہارنپور میں ملی، تو صرف ملاقات کی خاطر سہارنپور سے علی گڑھ تشریف لے گئے، حضرت پرتاپ گڑھی نے نہایت محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا، آپ کی میزبانی اور آرام و استراحت کیلئے محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحقؒ کو مامور فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کے آرام و راحت کا پورا خیال رکھیں اور حسب الحکم حضرت ہردوئی نے بھرپور خیال رکھا۔

ایک بار حضرت فقیہ الاسلامؒ ہردوئی حاضر ہوئے تو حضرت محی السنۃ نے حضرت فقیہ الاسلامؒ کا کھڑے ہو کر معانقہ فرمایا اور از خود پورا مدرسہ دکھایا، آرام و راحت اور طعام و ناشتہ ہر چیز کا معقول نظم فرمایا اور نہایت اکرام و احترام کا معاملہ فرما کر بزرگوں کی یاد تازہ کر دی۔

حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب مغیشی مدظلہ ایک بار ہردوئی حاضر ہوئے تو حضرت محی السنۃ نے ان کے ساتھ بھی اکرام و احترام کا معاملہ فرمایا، کتب خانہ اور عمارات وغیرہ دکھائیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ ”میں آپ کا اکرام و احترام اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ ایسی جگہ سے آئے ہیں جو حضرت اقدس حافظ حسین احمدؒ جراڑوی اور ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمدؒ جراڑوی کا وطن ہے۔“

حضرت محی السنۃ ایک مرتبہ بمبئی تشریف لے گئے فقیہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین صاحبؒ وہیں تشریف فرما تھے آپ کو حضرت ہردوئی کی بمبئی تشریف آوری کی خبر ملی فوراً ملاقات کے لئے حضرت ہردوئی کے پاس پہنچے وہاں مجلس چل رہی تھی، ہجوم زیادہ تھا حضرت عام ہجوم میں بیٹھ گئے، کسی نے حضرت ہردوئی کو اطلاع کر دی کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں اتنا سنتے ہی حضرت ہردوئی کھڑے ہو گئے پوچھا مفتی صاحب کہاں ہیں؟ فقیہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین صاحبؒ کھڑے ہو گئے تو حضرت ہردوئی نے آپ سے فرمایا کہ ”آپ ہمارے لئے نہایت قابل احترام ہیں آگے تشریف لے آئیں۔“

پھر بڑی گرم جوشی سے ملاقات و معانقہ فرمایا، مدرسہ کے حالات معلوم کرتے رہے، برابر دعائیں دیتے رہے اور اخیر میں چلتے ہوئے اس دعا کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ”اللہ آپ کی ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرمائے۔“

حضرت اقدس ہردوئیؒ تھانہ بھون تشریف لائے، حضرت مفتی صاحبؒ کو اطلاع ملی تو تھانہ بھون تشریف لے گئے اور ملاقات و زیارت سے مشرف ہوئے۔

اللہ تعالیٰ حضرت ہردوئیؒ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، پوری دنیا میں یہی ایک تھانوی چراغ جل رہا تھا جس سے دنیا روشنی ہدایت حاصل کر رہی تھی۔

۲۸ / رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ کو جب فقیہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین صاحبؒ کا وصال ہوا تو

اگلے دن ۲۹ رمضان المبارک کو حضرت فقیہ الاسلامؒ کے برادر اصغر جناب مولانا اطہر حسین صاحب مدظلہ کے نام اپنے تعزیتی مکتوب میں حضرت ہر دوئی نے گہرے رنج و الم کا اظہار فرمایا، خط کا متن برکت کے لئے درج ذیل ہے۔

”مکرمی جناب مولانا اطہر حسین صاحب زید لطفہ السامی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فون کے ذریعہ مکرمی جناب مفتی مظفر حسین صاحب کی رحلت کا علم ہو کر بہت ہی صدمہ و افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مدارج عالیہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، خبر ملتے ہی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی سعادت ملی، مدرسہ میں بھی موجودین نے ایصال ثواب کیا اور دعائے مغفرت کی ایسے مواقع پر چند کلمات بسلسلہ تعزیت تحصیل ثواب کی غرض سے عرض کرنے کا معمول ہے چنانچہ مسطور ہے۔

(۱) اِنَّ لِلّٰہِ مَا اخذَ وَلِلّٰہِ مَا اعطٰی وَ کُلٌّ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی فَلَتَصْبِرْ وَلِتَحْتَسِبْ

(۲) بدوی بزرگ نے جو تعزیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں پیش کی تھی وہ بھی تحریر ہے۔

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهُ ☆ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ

(۳) ایسے مواقع کیلئے اکابر کی تعلیمات سے ایک مضمون مرتب کر کے شائع کر دیا گیا ہے ان کی دو تین کاپی مرسل ہیں، مفتی صاحب کے متعلقین کو سنوادی جاوے یا دیدی جاوے ان شاء اللہ تعالیٰ نفع ہوگا یعنی تخفیف غم میں مدد ملے گی۔ والسلام

ابرار الحق

مورخہ ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ

مطابق ۲۴ نومبر ۲۰۰۳ء بروز منگل

حضرت فقیہ الاسلامؒ کے انتقال کے بعد خانوادہ سعیدی کی روحانی سرپرستی اور رہنمائی فرماتے رہے، خطوط کا تسلسل، خیر و عافیت اور مزاج پرسی کا معمول اور اسی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ جانشین فقیہ الاسلام حضرت مولانا محمد سعیدی کو اپنے مبارک سلسلہ میں بھی شامل فرمالیا (حالانکہ اس وقت بیعت کا سلسلہ موقوف فرما چکے تھے)

اسی طرح حضرت فقیہ الاسلامؒ کے بھتیجے عزیز مولوی احمد یوشع اور حضرت فقیہ الاسلامؒ کے بھانجے عزیز مولوی محمد ارشد میرٹھی سلمہما اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی درخواست پر اپنے دست حق پرست پر بیعت فرمالیا تھا۔

مظاہر علوم (وقف) سہارنپور کی عظیم پیشکش

فتاویٰ مظاہرہ العلوم

فتاویٰ مظاہرہ علوم

RS. 100

تقریباً سو صدی میں جامعہ مظاہرہ علوم وقف کی مسند افتاء سے مایہ ناز ارباب فقہ و فتاویٰ
واصحاب فکر و نظر کے ذریعہ دئے گئے مستند فتاویٰ کا منتخب مجموعہ

اس بیش قیمت علمی مجموعہ میں وضو، غسل، پانی، حوض و تالاب و کنواں، تیمم، حیض و نفاس، استحاضہ، نجاست،
استنجا، نماز، اوقات نماز، اذان، تکبیر، استقبال قبلہ، طریقہ نماز، قراءت و تجوید اور امامت و جماعت پر مستند علماء کرام
کے منتخب فتاویٰ کو شائع کیا گیا ہے۔

۵۲۸ صفحات پر مشتمل یہ علمی تحفہ حضرت فقیہ الاسلام کی زیر نگرانی ترتیب و تہذیب کے بعد نہایت اہتمام سے
شائع کیا گیا تھا، سابقہ روایات کے پیش نظر اعلیٰ معیاری کاغذ و طباعت اور مضبوط و خوبصورت جلد سے آراستہ ہے۔
اہل مدارس علمی و تحقیقی کام کرنے والوں اور علماء و طلباء سبھی کیلئے یکساں مفید ہے، پیشگی قیمت روانہ
کرنے پر یہ کتاب بھی بذریعہ ڈاک منگوائی جاسکتی ہے، صرفہ ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

ملنے کا پتہ

مظاہرہ علوم وقف سہارنپور

اسفار ہردوئی

آپ کے قدموں میں پہنچا یہ مری معراج ہے
اپنے رب سے جا ملے یہ آپ کی معراج ہے

معراج اپنی اپنی

حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب، ناظم و متولی مظاہر علوم (وقف) سہارنپور

آپ کے قدموں میں پہنچا یہ مری معراج ہے

اپنے رب سے جا ملے یہ آپ کی معراج ہے

کئی روز کا تھکا ماندہ سفر سے واپس لوٹا تو فکر مطالعہ نے مجھے میرے اس کمرہ تک پہنچا دیا جہاں میں اپنے سبق کی تیاری میں مصروف رہا کرتا ہوں مطالعہ کی میز پر ایک حسین و جمیل کارڈ دعوت نظارہ دے رہا تھا، کانپور سے مدرسہ کے کسی ہمدرد نے احقر کو اپنے یہاں منعقد ہونے والی کسی تقریب میں مدعو کیا تھا میں ان سے پوری طرح واقف نہ تھا، معلومات فراہم کرنے سے ان کی صحیح تصویر سامنے آ گئی، گرمی کی شدت اور غیر معمولی روز بروز بڑھتی تمازت کی وجہ سے اتنے طویل سفر کا تصور سوہان روح بن رہا تھا، ساتھیوں نے بتایا کہ داعی موصوف مدرسہ کے ہمدرد اور فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متوسلین میں سے ہیں جس محبت سے انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اس تقریب میں ضرور شرکت کریں میرے لئے انتظامی مصروفیات اور گرمی کی شدت مانع بن رہی تھی، ہر چند معذرت پیش کی مگر میرا انکار اور ساتھیوں کا اصرار بڑھتا رہا آخر ان کا اصرار میرے انکار پر غالب آ گیا، سفر کی منظوری دیدی گئی چند روز بعد مجھے بتایا گیا کہ فلاں تاریخ میں سفر ہے ٹکٹ آگئے ہیں عجیب اتفاق کہ جس شب یہ سفر تجویز ہوا اسی رات ضلع بجنور کے ایک دیہات قصبہ ساہن پور میں ایک جلسہ پہلے سے تجویز تھا میری یہاں حاضری بھی انتہائی ضروری تھی اس جلسہ میں شرکت کے لئے اپنے مدرسہ کے اساتذہ پر مشتمل ایک وفد کے ساتھ سفر شروع کر دیا وقت مقررہ پروہاں پہنچ کر مختصر سی شرکت کے بعد اہل جلسہ سے کانپور روانگی کی اجازت لے لی اور چند لمحات کے بعد نجیب آباد اسٹیشن پہنچ گیا، کچھ دیر انتظار کے بعد چنڈی گڑھ ایکسپریس پہنچ گئی جس کوچ میں ہمارا سفر تجویز تھا اس کے دونوں دروازے بند تھے بمشکل تمام کسی طرح اندر داخل ہونے میں کامیابی ملی، خیال تھا کہ اندر پہنچ کر اپنی سیٹ بالکل خالی آرام کے لئے پوری طرح فارغ ملے گی مگر اثر دہام غیر معمولی، آدمی کے سہارے آدمی

لیٹایا بیٹھا ہوا، ایک ایک برتھ پر کئی کئی سوار ہمدردی و محبت کا عجیب مظاہرہ کر رہے تھے، بھیڑ کی کثرت اور گرمی کی شدت سے دم گھٹا جا رہا تھا، پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی آرام چہ معنی دارد؟ تلاش بسیار اور غیر معمولی جستجو کے بعد دوستوں نے ایک برتھ لینے پر قدرت حاصل کی، دائیں بائیں، نیچے اوپر آدمیوں کا سیلاب اس پر مجبور کر رہا تھا کہ شرافت کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے رہیں، برتھ کا استعمال کسی بھی طرح ممکن نہیں استعمال تو درکنار اس قسم کی سوچ بھی ایک احمقانہ سوچ تھی، رفتہ رفتہ شب تمام ہو گئی صبح کو کلفت راحت سے بدلنے کا وقت آپہنچا خدا خدا کر کے ہماری ٹرین لکھنؤ کے اسٹیشن پر پہنچ گئی، ہم نے سکون کا سانس لیا، ضیق مسلسل سے چھٹکارا مل گیا پریشانی دور اور کلفت کا فور ہوئی خدا کا شکر ادا کیا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ سفر میں نے منظور کیوں کر لیا؟ سخت گرمی اور موسم کی حرارت و تمازت روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہوئے کیوں اس سفر پر مجبور ہوا؟ کیوں میں نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا؟ کیوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔

لکھنؤ! صرف یوپی کی راجدھانی ہی نہیں، تہذیب و شائستگی، نزاکت و نفاست، زبان و بیان اور اردو ادب کا گہوارہ بھی ہے، یہاں کی گرمی مشہور ہے، لکھنؤ پہنچ کر ہمیں بھی اس کی گرمی کا مزہ چکھنے کو ملا، کافی دور پیدل چلنے کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ شاید آج مجاہدہ کی تکمیل ہو جائیگی، بزرگان دین خانقاہوں میں کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہوں گے اور کیسے راہ سلوک کی تکمیل ہوتی ہوگی۔

ہمارا منظر قابل دید تھا شاید زندگی میں پہلی بار ایسے مجاہدہ کی نوبت آئی ہوگی، پسینے سے شرابور ہم سب کسی طرح ایک ٹیکسی پکڑ کر کانپور کے لئے روانہ ہو گئے دو ڈھائی گھنٹہ کا سفر طے کر کے ہم کانپور اپنے داعی کے مکان پر جا پہنچے۔ کانپور وہ تاریخی جگہ ہے جہاں ایک زمانہ تک ہمارے حضرت مولانا تھانویؒ اور مفتی محمود الحسن گنگوہیؒ قیام فرما چکے ہیں مدتوں ان حضرات نے یہاں کے عوام کو علمی روشنی بخشی ہے، یہاں ایک قدیم ادارہ جامع العلوم کے نام سے موسوم ہے جو ان بزرگوں کی آماجگاہ رہا ہے، حضرت مولانا ہردوئیؒ دو سال تک استاذ اور آخر تک اس کے مہتمم رہے ہیں۔

داعی نے بڑے تپاک سے ہمارا استقبال کیا، مختصر سے چائے ناشتہ کے بعد ہمیں آرام گاہ پہنچا دیا گیا، یہاں کی گرمی بھی دید کے قابل تھی سب ساتھی پسینہ سے شرابور تھے لگتا تھا کہ عرفات کے میدان میں یاری جمرات کی بھیڑ میں تہمتاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی ہے اور ہم حصول اجر و ثواب کی خاطر اس کو برداشت کئے جا رہے ہیں یہاں ہماری مساعی عجب پر کیف منظر پیدا کر رہی تھیں اپنے ایک دوست کا مقولہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ ”بزرگی قبل از وقت نقصان دیتی ہے۔“

ظہر بعد کھانا اور کھانے کے بعد آرام تجویز تھا مگر اس قدر گرمی اور سورج کی تمازت و حرارت میں آرام تو

کہاں میسر ہو سکتا تھا سارا وقت یاد الہی میں گزر گیا، دل بصد خوف اللہم اَجْرِیْ مِنَ النَّارِ کی صدا کی بلند کرنے لگا، یہاں ایک حجرہ میں چند منٹ قیام کیا، جناتی اثرات محسوس ہوئے، ساتھیوں نے بتایا کہ اس رات میں یہاں قیام کر لیں تو ان شاء اللہ ہاتھ پاؤں دبائے جائیں گے اس حجرہ میں رات کو قیام بڑا مشکل ہے، امام صاحب سے جنات کی کشتی ہوتی ہے۔

شام کو تجویز شدہ نظام کے مطابق تقریب میں شرکت کے بعد جب اسی شام میں آرام کے لئے واپس لوٹ رہے تھے تو پورے شہر کی لائٹ گل نظر آئی گویا پورا شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ادھر تاریکی ادھر گرمی، دونوں اپنا پورا رنگ دکھا رہی تھیں گویا دونوں مل کر قیامت کا منظر پیش کر رہی تھیں، خدا یاد آ رہا تھا یا خدا کے دوستوں کی یاد دل کو بہلا رہی تھی، نیند نام کی کوئی چیز قریب کو پھٹکنا بھی گناہ تصور کر رہی تھی، ہر مخلص و ہمدرد، لاچار و مجبور نظر آ رہا تھا دراصل مرضی مولیٰ یہی تھی۔

اس تباہ کن حالت میں قدرت نے دستگیری کی اپنے ایک ولی کا خیال دل میں پیدا کیا گویا ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ جاؤ اگر اس سفر کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو میرے ایک دوست سے ملو، ادھر یہ ندا آئی اور ادھر ہاتھ غیبی نے اس کا نام بھی صفحہ دل پر ثبت کر دیا فوراً ساتھیوں سے مشورہ ہوا اور ایک طویل گفت و شنید کے بعد رائے بنی کہ صبح سویرے ہردوئی کے لئے روانگی اختیار کر لی جائے صبح بارہ بجے تک وہاں پہونچ کر حضرت والا ہردوئی سے شرف نیاز و ملاقات حاصل کیا جائے یہ ارادہ عزم مصمم سے بدل گیا۔

حضرت والا ہردوئی کو اطلاع کر دی گئی کہ چند نا اہل خدام پر مشتمل ایک قافلہ مظاہر علوم وقف سہارنپور سے کانپور ہوتے ہوئے ہردوئی خدمت بابرکت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، دربار ولایت سے بصد اظہار و مسرت اجازت مل گئی، صبح سویرے ہم سب ساتھی بذریعہ بس ہردوئی کی طرف عازم سفر ہوئے، بس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہماری مسرت و شادمانی میں اضافہ ہو رہا تھا، جوں جوں بس آگے بڑھتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کامیابی و کامرانی ہماری طرف تیزی سے بڑھ کر ہمارے قدم چومنا چاہتی ہے کم و بیش پانچ گھنٹہ کی مسافت عجیب کیف و مسرت کے ساتھ پوری ہو گئی۔

خدا خدا کر کے ہم نے سرزمین ہردوئی پر قدم رکھا، ہماری تو آرزو پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم عنقریب باغ جنت میں داخل ہوا چاہتے ہیں، دست قدرت کے ترتیب دئے ہوئے اس نظام کے موافق بارہ بجے سے پہلے اشرف المدارس پہونچ گئے اسی وقت پہونچنے کی اطلاع بذریعہ فون دی گئی تھی۔

یہ حضرت والا ہردوئی کا مسکن و قیام گاہ اور بہترین تربیت گاہ ایک عظیم کارخانہ اور شاندار مصنع ہے جہاں

رجال تیار ہوتے ہیں، احیاء سنت کی تربیت سے مالا مال افراد پیدا ہوتے ہیں، خانقاہی آداب کے موافق ہم لوگوں نے پہنچتے ہی تحریری طور پر اپنی آمد کی اطلاع کی، مستعد خادم فوری طور پر رقعہ لے کر خدمت بابرکت میں جا پہنچا۔

ادھر دوسرے خادم سے ہماری گفتگو شروع ہوئی انہوں نے بتایا کہ

”آپ لوگوں کی آمد کی اطلاع سے حضرت والا بہت مسرور ہیں، آج صبح وہیل چیئر پر مدرسہ تشریف لائے سب چیزوں کا معائنہ فرمایا، مطبخ جا کر کارندوں کو کسی امر پر اظہارِ خفگی کے ساتھ ڈانڈ پٹا، مجھے بلا کر پوچھا کہ سہارنپور سے ہمارے مہمان آرہے ہیں ان کے لئے کہاں نظم کیا؟ بتایا گیا کہ خصوصی مہمان خانہ میں! پھر خود تشریف لا کر اس نظام کو ملاحظہ فرمایا اور ہدایت جاری کی کہ دیکھو میرے مہمانوں کے اعزاز و اکرام میں کوئی کمی نہ ہو جائے، مہمانوں کے آتے ہی فوراً مجھے اطلاع کی جائے۔“

یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ خادم حضرت والا کا جواب لے کر آپہنچا، ہم سب کی نظر التفات اس کی طرف مرکوز ہو گئی، اس نے بتایا کہ

”حضرت والا نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ملاقات کے لئے میں خود حاضر ہو رہا ہوں“

یہ سن کر ہماری ندامت و شرمندگی کی انتہاء نہ رہی۔

کہاں میں اور کہاں یہ نکلت گل	نسیم صبح یہ تیری مہربانی
------------------------------	--------------------------

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

کجا ماؤ کجا زنجیر زلفش	عجب دیوانگی اندر سر افتاد
------------------------	---------------------------

حقیقت یہی ہے کہ رحمت و شفقت کا جو برتاؤ حضرت والا کی جانب سے ہوا، ہم ہرگز اس کے مستحق نہ تھے، یہ سب ان کی عنایت اور ان کا کرم تھا اور نہ۔ ع

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

اس وقت آنکھیں نم تھیں اور اپنی نااہلی کا احساس بحر فکر میں تلاطم خیز کیفیت سے دوچار تھا، کچھ دیر کے لئے ہم کھو گئے کہ حضرت والا نے یہ کیا پیغام بھیجا ہے، ذرا دیر بعد سنبھلے اور فوراً ایک رقعہ لکھ کر حضرت والا کی خدمت میں ارسال کیا کہ

”حضرت والا زحمت نہ فرمائیں جب حضرت کو فرصت ہو ہم خدام کو اطلاع ہو جائے ہم خود ہی

شرف ملاقات حاصل کریں گے۔“

یہ عرض و معروض کر کے ہم مطمئن ہو گئے، خیال تھا کہ کچھ دیر بعد حضرت یاد فرمائیں گے اس لئے بعض

ساتھی استنجا اور بعض غسل وغیرہ میں مشغول ہو گئے یکا یک ایک آواز آئی کہ۔
”حضرت یاد فرما رہے ہیں حضرت یاد فرما رہے ہیں“

جلدی جلدی فراغت پا کر ہم حضرت کی خدمت میں پہونچے سلام و دعا کے ساتھ معافۃ کا شرف بھی حاصل ہوا، لیٹے ہی لیٹے حضرت نے معافۃ فرمایا، ایک ساتھی نے جب بائیں طرف معافۃ کی جسارت کی تو فوراً حضرت نے تنبیہ فرمائی اور الیمین کا حکم صادر فرمایا۔

یہ بات اگرچہ پہلے سے معلوم تھی مگر حضرت والا کی تنبیہ نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمادی، اس تنبیہ کی بدولت یہ مشہور غلطی بھی رفع ہو گئی کہ معافۃ بائیں جانب ہونا چاہئے تاکہ دل سے دل مل جائے، حقیقت بھی یہی ہے کہ دل سے دل کا ملنا تو معافۃ کے مفہوم میں داخل ہی نہیں۔

حضرت والا نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں خیر و عافیت معلوم کی ہم لوگوں نے بھی شایان شان ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے یہی استفسار کیا جواب نعم میں ملا یہ چیز ہمارے لئے انتہائی مسرت کن تھی دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔

کافی دیر تک گفتگو کا یہ مبارک سلسلہ جاری رہا، بوقت گفتگو حضرت والا کے چہرے پر بشارت کے اثرات نمایاں تھے، بیماری وغیرہ کا اثر قطعاً محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دوران گفتگو حضرت والا نے اپنے یہاں خانقاہ میں جاری معمولات ترتیب سے بتانا شروع کئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

”جب آدمی کہیں جائے تو کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہمارے یہاں پہلے مشکوٰۃ تک تعلیم کا نظم تھا اس کے بعد بچوں کو آپ کے یہاں دورہ کے لئے بھیج دیا جاتا تھا، مظاہر علوم میرا مادر علمی ہے وہاں یہ بچے چلے جاتے تھے، کچھ ساتھیوں نے درخواست کی کہ ہمیں دورہ حدیث شریف کا نظم ہو جائے تو طلبہ ادھر ادھر نہ جائیں یہیں تکمیل ہو جایا کرے گی ہم نے غور کے بعد اس کو منظوری دیدی۔

الحمد للہ دورہ حدیث شریف کی تعلیم جاری ہے اس میں ہم نے یہ التزام کیا ہے کہ جتنا سبق روزانہ ہو ہر بچہ اس سبق کی عبارت پڑھے، طلبہ تھوڑے ہیں اس لئے یہ پابندی کچھ مشکل بھی نہیں الحمد للہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو طلبہ عبارت پڑھنا نہیں جانتے تھے، یا ان میں استعداد تو تھی مگر وہ ہمت نہ کرتے تھے، وہ بھی عبارت پڑھنے لگے۔

دورہ حدیث شریف کے سبھی طلبہ کو ایک ہی حجرہ میں رکھا جاتا ہے اور ماشاء اللہ سب طلبہ تہجد کے پابند ہیں۔“

گفتگو کرتے کرتے حضرت والا کی نظر گھڑی کی طرف چلی گئی، فوراً ر کے اور فرمایا کہ

”کافی وقت ہو گیا ہے آپ لوگ کھانا کھائیں پھر شام کو بات کریں گے شام کو عصر بعد مجلس بھی ہوتی ہے۔“

اس افاضہ کے ساتھ فیضان خیر کا یہ سلسلہ اس وجہ سے رک گیا کہ حضرت والا کو ہمارے آرام کی فکر تھی، آج ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت خاص امور پر تبادلہ خیال فرمائیں گے، قرآن و شواہد کچھ ایسی نشاندہی کر رہے تھے کہ

حضرت مظاہر علوم کے بارے میں کچھ فرمانا چاہتے ہیں، ملاقات سے چند روز پہلے حضرت والا نے احقر کے نام ایک مکتوب گرامی لکھ کر مظاہر علوم کے نظام سے متعلق کچھ امور دریافت فرمائے تھے، یہ آخری فکر دل کی دل ہی میں رہ گئی ہم خدام انتظار میں رہے اور وہاں صورت حال کچھ اور ہی ہوتی چلی گئی۔

عصر بعد ہم لوگ مسجد میں حاضر ہو گئے، نماز کی ادائیگی کے بعد مجلس میں حضرت والا کا انتظار ہونے لگا اچانک اطلاع ملی حضرت کی طبیعت علیل ہے دعا کریں، ایک شاعر رفیق صاحب (جو حضرت کے پاس پہلے سے حاضری دیتے تھے) آج بھی موجود تھے حضرت والا نے ان کو مجلس میں شعر سنانے پر مامور فرمایا، معمولات سے فراغت کے بعد انہوں نے سنت کی اہمیت پر انتہائی عاقلانہ بلیغ کلام سے حاضرین مجلس کو محظوظ فرمایا۔

مغرب سے ذرا دیر پہلے یہ مجلس ختم ہوئی، لوگ مغرب کی تیاری میں لگ گئے بعد نماز مغرب اطلاع ملی کہ حضرت کی طبیعت زیادہ علیل ہے، سب لوگ یلین شریف پر بیٹھیں اور دعا میں مصروف ہو جائیں، فوراً سب نے جمع ہو کر یلین شریف کا ختم کیا، حضرت کی صحت کے لئے دعا ہوئی مگر اب صحت مقدرنہ تھی، پیانہ حیات لبریز ہو چکا تھا اس وقت خدام کی اضطرابی کیفیت قابل دید تھی اندر باہر جانے اور حضرت کی طبیعت کے بے قابو ہونے کا منظر عجیب تھا، بسیار جستجو کے بعد تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کو خون کی قے ہوئی ہے اور اب ناک سے بھی خون آ رہا ہے، حالت تشویشناک ہے غالباً دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی ہے، خدام نے بساط بھر کوشش کی، فوری طور پر ڈاکٹر میسر ہو گیا، ڈاکٹر نے پوری کیفیت دیکھنے کے بعد لکھنؤ لے جانے کا مشورہ دیا، دیر تک مشوروں کا تسلسل رہا جس کی وجہ سے فوری طور پر رائے قائم کرنے میں تاخیر درتا خیر ہوتی چلی گئی۔

حضرت والا فرماتے تھے کہ ”جہاں انتقال ہو وہیں تدفین ہونی چاہئے“ خدا نخواستہ اگر انتقال لکھنؤ میں ہوا ہوتا تو وہاں تدفین کی شکل میں اہل ہردوئی آپ کے جسد خاکی سے بھی محروم ہو جاتے اور اگر حضرت کا جنازہ واپس ہردوئی لایا جاتا تو یہ شریعت و سنت اور حضرت محی السنۃ کے مزاج کے خلاف ہوتا۔

جب ہسپتال لے جانے کیلئے وہیل چیئر پر بٹھا کر حضرت والا کو کار میں سوار کرنے کیلئے لایا گیا تو ادھر خون کا سلسلہ جاری تھا اور ادھر لوگ حضرت والا کی زبان فیض ترجمان سے اللہ اللہ کی آواز سن رہے تھے جو نبی حضرت والا کو ”کوالس“ میں سوار کیا گیا اور ڈرائیور نے گاڑی اشارت کی تو زور سے ایک جھٹکا لگا ہمارا خیال ہے کہ بس یہی اوقات حضرت کی زندگی کے آخری لمحات تھے، اسی وقت یہ آفتاب عالم تاب ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا، تسلی کیلئے ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد حضرت کے انتقال پر مہر تائید ثبت کر دی، رحمہ اللہ رحمة واسعة۔

بہر استقبال جنت میں قطار اندر قطار

ہیں یقین مجھ کو کھڑے ہوں گے مقیمین ارم

انتقال پر ملال کے فوراً بعد غسل کی تیاری شروع ہو گئی، بہت سے لوگوں نے غسل میں شریک ہو کر اپنی

سعادت پر مہر تصدیق ثبت کرانے کی کوشش کی مگر قدرت نے اس سعادت کیلئے پہلے ہی سے چند مخصوص افراد کا انتخاب کیا ہوا تھا، اس لئے باوجود بسیار کوشش کے دوسرے لوگ اس مبارک غسل میں شریک نہ ہو سکے جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت والا نے بہت پہلے ہی وصیت فرمادی تھی کہ

”میرے غسل میں وہی لوگ شریک ہوں جو زندگی میں میری خدمت کرتے ہیں“

اسی دوران یہ اطلاع ملی کہ زیارت کا سلسلہ فجر بعد شروع ہوگا اور سب لوگوں کو زیارت کا موقع دیا جائے گا۔ اس اعلان کے مطابق فجر کے بعد زیارت شروع ہو گئی، نیاز مندان جوق در جوق امنڈ پڑے، جنازہ اٹھائے جانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، راقم الحروف بھی شرف زیارت سے مالا مال ہوا، چہرے پر زردی کے آثار نمایاں تھے جس کو بعض آثار میں آثار مغفرت سے بتایا گیا ہے، موسم نہ صرف گرم بلکہ سخت گرم تھا، اس لئے ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ شرکاء جنازہ کو تکلیف پیش آئے گی، مگر اس شاہ وقت کا جنازہ جوں ہی اٹھایا گیا موسم خوشگوار ہو گیا، اور ہواؤں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے محسوس کئے جانے لگے، قریبی راستہ پر نہ جاتے ہوئے مجمع کا رخ شارع عام کی طرف ہو گیا، انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ میرکارواں کی قیادت میں یہ کارواں عید گاہ کی طرف روانہ ہو گیا، عقیدتمندوں کا ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر خراج عقیدت پیش کرتا ہوا وقار و سنجیدگی کے ساتھ تیزی سے آگے قدم بڑھا رہا تھا، وہ منظر قابل دید تھا، ہر شخص پایہ تخت کو چھونا اپنے لئے باعث فخر و سعادت تصور کر رہا تھا، و فور شوق میں ایک قدم آگے بڑھتا تو دوسرا قدم پیچھے ہٹ جاتا، دل گردے کو تھامے ہوئے خدام بلک بلک کر رو رہے تھے، مگر حد و شریعت سے ذرا تجاوز نہ تھا۔

راستہ میں ایک جگہ کسی وجہ سے جنازہ کاندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ دیا گیا اور خدام کی جانب سے بصد عجز و نیاز لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ ملا، تا حد نظر لوگ سڑک پر بیٹھے نظر آئے، حضرت والا کا نظم و ضبط آج بھی اپنی کرامت دکھا رہا تھا۔ شارع عام سے گزرتے ہوئے ایک طویل سفر طے ہو جانے کے بعد قافلہ میر قافلہ کی قیادت و سیادت میں بالآخر عید گاہ پہنچ ہی گیا، یہاں ذمہ داران کی جانب سے کچھ ہدایات جاری ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، قاری امیر حسن صاحب نے امامت فرمائی اور بعد ازاں خطہ صالحین میں اس جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا۔

سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے
آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے

☆☆☆

اللہ یؤلیک غفراناً واحساناً
ففی کل یوم اذوق الموت الوانا

یا غائبافی الثری یتلی محاسنہ
ان کنت جُرِعْتَ کاس الموت واحده

ہردوئی تک

مولانا محمد ارشد فاروقی

رمضان المبارک کا مہینہ اور جمعہ کا دن تھا ابھی نماز سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت مفتی مظفر حسین رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ جامع مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ حضرت مولانا علی میاں کا انتقال ہو گیا ہے پوری مجلس سراپا حیرت و استعجاب بن گئی پھر استرجاعی کلمات نے غم و رنج کی گھنگھور گھٹا چھادی، عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی، وہ طاب حیات طاب میتا کے بھرپور مصداق ہوئے، رمضان کا مبارک مہینہ آخری بابرکت عشرہ جمعہ کا متبرک دن، خطبہ جمعہ سے قبل مستجاب ساعتیں قرآن کریم کی تلاوت کی زریں حالت، قلب قرآن سورہ یٰسین کا حسن انتخاب اور فبشرہ بمغفرة واجر کریم پر حسن خاتمہ! قابل رشک رہا یہ مرنے کا انداز جس طرح قابل رشک تھا جینے کا اسلوب محیایی و مماتی للہ رب العلمین کی ترجمان یہ زندگی یہ موت!

یہ پوری مجلس اس جتن میں لگ گئی کہ نماز جنازہ میں شرکت کس طرح ممکن ہو سو جتن کر لئے گئے کوئی شکل بن نہ سکی، حضرت مفتی مظفر حسینؒ نے تعزیت کیلئے ایک وفد رائے بریلی بھیجنے کا فیصلہ کیا اور خود عازم سفر ہوئے لیکن ان کی خرابی صحت ضعف طبیعت موسم کے انتہائی سرد ہونے کے باعث خدام نے بدقت روکا، بذریعہ کار یہ وفد مولانا محمد سعیدی کی سربراہی میں چلا جس کے شرکاء راقم کے علاوہ مولانا تحسینؒ، مولانا ریاض الحسنؒ، مولانا احمد میرٹھی تھے..... رائے بریلی پہنچ کر قبر کی زیارت اور فاتحہ کے بعد حضرت مولانا محمد رابع صاحب ندوی کی خدمت میں حضرت مفتی مظفر حسین صاحبؒ کا تعزیتی مکتوب پیش کیا گیا..... جب ہم واپس ہونے لگے تو دو راستوں میں سے ایک راستہ ہردوئی ہو کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا تھا لیکن کہر کی وجہ سے ہردوئی پہنچنے کے وقت کا تعین مشکل ہو رہا تھا اور خانقاہ کے ضوابط رفقاء کو معلوم تھے اس لئے ہردوئی کی راہ پر چلنے میں دقت محسوس کی جا رہی تھی کہ راقم نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی اور خانقاہ فون کر کے معلوم کیا کہ ہم لوگوں کے پہنچنے میں کافی تاخیر ہو سکتی ہے کیا صدر دروازہ ہمارے پہنچنے کے بعد صبح سے پہلے کھل سکتا ہے؟ جواب ملا ضرور! راقم نے خانقاہی اصول و ضوابط کے پیش نظر فون ریسیو کرنے والے کا نام نوٹ کر لیا..... خدا خدا کر کے ہم ایک بجے کے قریب حضرت ہردوئی کی خانقاہ کے صدر دروازے پر پہنچے اور گاڑی کی آواز پر ہی دروازہ وا ہو گیا، صحن میں

ایک درخت کے نیچے دروازہ کھولنے والے نے کار کھڑی کرنے کا اشارہ کیا جب ہم کار میں سے نکلے تو اس رہبر کا دور دور تک پتہ نہ تھا زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا..... ہر طرف سناٹا، سرد ہواؤں کے جھونکے قلب کی حرارت کو بخمد کرنے پر تلے ہوئے تھے کچھ دیر ہم نے انتظار کیا پھر رمضان و قرآن نے ہمیں مسجد کی طرف کھینچ لیا وضو خانے کے پاس فرض کے ساتھ بیس رکعت تراویح باجماعت ادا کرنے کی سعادت ملی کچھ لمحات بدرجہ مجبوری سہمی دعا و مناجات میں گزرے کہ خانقاہ کے معبدہ مطبخ میں سے اٹھنے والی آواز نے ہمیں اپنی طرف اندھیرے میں اجالے کی طرح متوجہ کر لیا، آواز کی آہٹ پر قدم رکھتے گئے اور مطبخ پہنچ گئے، وہاں موجود خانساں نے بتایا چند گھڑیوں میں ایک فربہ شخص آئیں گے وہ آپ لوگوں کے ٹھہرنے کا نظم کریں گے، ہم آپ کے لئے سحری تیار کر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک بھاری بھر کم شخصیت نمودار ہوئی ہمیں دیکھتے ہی وہ کہنے لگے ارے آپ لوگوں نے آرام نہیں کیا؟ جب صورت حال سے آگاہ ہوئے تو بہت معذرت کے ساتھ پہلے سے تیار شدہ کمرے میں لے گئے اور آرام کی سخت ہدایت فرمائی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم آخری وقت میں آپ لوگوں کو جگائیں گے تاکہ سحری کھا سکیں کمر سیدھی کر لیں، بہت زحمت ہوئی، ہم شرمندہ ہیں۔

پر تکلف دسترخوان کے فیوض سے فیضیاب ہو کر ہم نے پوچھا حضرت سے ملاقات کب ہوگی؟ بتایا گیا فجر بعد یا آٹھ بجے صبح..... وہاں کے نورانی اور مجاہدے کے ماحول سے متاثر ہو کر ہم نے فجر کی تیاری معمول سے کچھ پہلے ہی کر لی اور مسجد جانے کے لئے نکل رہے تھے کہ قاصد آیا خوشخبری لایا حضرت! آپ لوگوں کو یاد فرما رہے ہیں! ہم مسرت سے جھوم اٹھے، دل کی کلیاں اس غم آگیاں ماحول میں بھی چٹکنے لگیں، قدم اٹھنے لگے رفتار بڑھنے لگی اور یہ کارواں رواں دواں حضرت کی قیام گاہ خود حسن سلیقہ حسن تربیت کی مظہر تھی ہلکے رنگ کے قیمتی قالین بچھے ہوئے سفید گاؤتیکے قرینے سے رکھے ہوئے خوبصورت مسہری نما پلنگ ایک کونے میں جس پر سفید چادر بچھی ہوئی بے پوری انداز کی ہلکی گلابی مائل بادامی رضائی پائنتی رکھی ہوئی ایک ننھی سی میز پر چند کتابیں ایک جمائل مرصع ایک شیشے کی الماری میں سے جھانکتے قیمتی خمیرے اور ضرورت کی دوائیں بالکل سیدھی لائن سے سجائی ہوئی پورے کمرے میں شلمۃ العنبر کی رچی بسی بھینی بھینی خوشبو جہاں ہمارے دل و دماغ کو معطر کر گئی وہیں یہ قیام گاہ مکین کے صاف ستھرے پاکیزہ عالی ذوق و افتاد طبع کی عکاس ہی نہیں مناد تھی، قیام گاہ پر اچنتی نگاہ تو پڑ ہی گئی پر ہم ان حسین بھول بھلیوں میں نہ کھوئے اور رات کے آخری حصے کے بدر منیر کی پھیلی چاندنی میں نہا گئے آنکھ ایک لمحے کو جھپکنے کے لئے تیار نہیں، گنہگار سخت ہاتھ ایک سکند کے لئے نیکو کار ریشم جیسے نرم و نازک اور پاکیزہ ہاتھ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، ایسے عالم میں جو حضرت نے غیر متوقع طور پر معاف فرمالیا تو ایسا لگا کہ جیسے مثبت مقناطیس منفی مقناطیس پر اپنے اثرات منتقل کر رہا ہو، حضرت علی میاں کے انتقال کے بعد جو

ایک یاس کی کیفیت تھی رجا میں تشویش طمانیت میں، انتشار سکون میں، بدلنے لگا یہ روداد تو زیارت مصافحہ و معانقہ کی رہی پھر حضرت مولانا علی میاں کی منقبت میں انتہائی وقع تاثرات کا اظہار فرماتے رہے، ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے رہے، اچھی زندگی، اچھی موت پر اطمینان ظاہر فرمایا اور فرمانے لگے عزیز و غم بہت بڑا ہے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، جس درجہ کا تعلق ہے اسی درجہ کا غم ہے، اس رنج و غم کی کیفیت میں بھی شریعت کی رہنمائی موجود ہے، ضرورت ہے استعانت بالصبر اور استعانت بالصلوٰۃ کی، صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ کی مدد و رنج کے مواقع پر مانگنے کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلوٰۃ ان اللہ مع الصّبرین، اپنا شمار صبر کرنے والوں میں کرائیے اور اللہ کی معیت کی دولت بے بہا سے مالا مال ہوئے یہ رسم دنیا ہے ہر ایک کو راہی آخرت ہونا ہے باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے وہ آج بھی ان ہی تمام صفات کے ساتھ ہے جن صفات کے ساتھ آج سے پہلے تھی اور ان ہی صفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہے گی۔

حضرت ہر دوئی کی اس تلقین نے راقم کو سنبھالا دیا اس پر کیف پر سوز ملاقات و مجلس کے بعد ہم مسجد فجر کیلئے چل پڑے، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر نماز ہوئی، ہم نے آرام گاہ کا رخ کیا ہی تھا کہ فرستادہ نے مژدہ جانفزا غیر متوقع طور پر سنایا حضرت یاد فرما رہے ہیں! ہم مسرت و اطاعت کا مجسمہ بنے حاضر خدمت ہوئے۔

حضرت نے فرمایا آپ حضرات نے اس قدر بھیا نک ٹھنڈک کے موسم میں سفر فرمایا اور اس خاکسار کے یہاں تشریف لائے تو دل چاہا ہمیں بھی آپ کے جذبات و قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، اصل وہ خصوصیات اور صفات اور وہ اعمال ہیں جو کسی کو بڑا بزرگ رہنما اور شیخ بناتے ہیں، شخصیات اللہ کے جاری و ساری نظام کے مطابق جاں بحق ہو جاتی ہیں لیکن وہ اعمال وہ صفات وہ خصوصیات جن کو شخصیت سازی میں دخل رہتا ہے وہ باقی رہتی ہیں مقبوعین کو چاہیے کہ شخصیات کے لئے رفع درجات کی دعا کریں، استغفار کریں اور ان اعمال رفیعہ کو اپنانے کی امکانی کوشش کریں جن کی بدولت انہیں یہ مقام خاص ملا، فہد اہم اقتدہ کا یہ یہی تقاضا ہے۔

عزیزو! حضرت مولانا علی میاں کے سانحہ ارتحال کا آپ پر بہت گہرا اثر ہے دل اس وقت نرم ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس کیفیت سے فائدہ اٹھاؤ اور اعمال صالحہ کی طرف مسابقت کرو پھر حضرت نے الیکٹرانک گھنٹی پر نگاہ ڈالی، مولانا محمد سعیدی اور راقم کے علاوہ کوئی نہیں تھا، راقم نے نگاہ کا یہ اشارہ سمجھ لیا اور چار پائی کے ایک کونے میں ترتیب سے رکھی ہوئی گھنٹی اٹھائی، خدمت میں پیش کی حضرت نے بٹن دبایا، مطلوبہ شخص پلک جھپکتے حاضر ہوا حکم دیا گیا وہ کتابچے لائیے جو مولانا محمد رابع صاحب ندوی کو بھیجے گئے، چند ثانیہ میں دود و رسالے حضرت نے ہمیں عنایت فرمائے، جس میں مصیبت آپڑنے پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین، استعانت بالصبر، استعانت بالصلوٰۃ کا حکم اس کے اثرات و ثمرات، کیفیات و مشاہدات

کے تذکرے کے ساتھ مخصوص ہدایات رقم ہیں۔

ہمارے اعزاز کے لئے یہ کافی ہے کہ یہی رسالے حضرت مولانا علی میاں کے خاص معتمد حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی کو بھیجے اور ہمیں بھی عنایت فرمائے، حضرت مولانا علی میاں کی رحلت کا اثر ہمارے پورے وفد پر تھا لیکن راقم جہاں حضرت مولانا علی میاں سے شاگردی و گرویدگی کا تعلق رکھتا تھا وہیں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیبؒ کے انتقال کے بعد بیعت و استرشاد کا علاقہ بھی جوڑے تھا جس کی اطلاع حضرت ہردوی کو خلوت میں دی اس نکتہ نظر سے حضرت نے خاص توجہ فرمائی ہم نے چاہا کہ اب حضرت کے سلسلہ میں شمولیت میں اختیار کریں تو حضرت نے فرمایا ابھی ضرورت نہیں استشارہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ گفتگو بالکل تنہائی میں ہوئی اس وقت اس وفد پر حضرت کی خصوصی نگاہ اس لئے تھی کہ حضرت مفتی سعید اجڑوٹی کے پوتے مولانا اطہر حسین کے بیٹے اور فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسینؒ کے بھتیجے جواں سال عالم، نیک طبیعت، نرم خو، معتدل مزاج جناب مولانا محمد سعیدی صاحب (جواب ماشاء اللہ مظاہر علوم کے ناظم ہیں) سربراہ وفد تھے اور حضرت کیلئے اجڑوہ کا نام ہی متوجہ ہونے کیلئے کافی ہوتا تھا کہ حضرت مفتی سعید احمد علیہ الرحمہ حضرت کے استاذ تھے، اجڑوہ کے تھے۔

اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ حضرت کو ہماری رات کی بے آرامی اور صحن میں قیام کا پتہ چل گیا پھر کیا تھا تفتیش کے لئے ایک کمیٹی تشکیل پائی اس نے ہم سے سب سے پہلے انٹرویو لیا آپ لوگ کب پہنچے؟..... رات کو ایک بجے.....! دروازہ کس نے کھولا.....؟ فلاں صاحب نے.....! کیا آنے سے پہلے اطلاع کی گئی تھی.....؟ جی ہاں! فون کے ذریعہ..... فون کس نے ریسو کیا.....؟ نام بتایا گیا..... دروازہ کھولنے والا اچانک غائب کب ہوا.....؟ ہمیں درخت کے نیچے کار کھڑی کرنے کی ہدایت کے بعد..... بے آرامی کا وقفہ کتنا لمبا رہا.....؟ ہم نے معذرت کی کہ ہمیں از حد آرام ملا کوئی تکلیف نہیں ہوئی..... نہیں! آپ حقیقت بتائیں حضرت کا حکم ہے..... ایک بجے سے ڈھائی بجے تک ہم مسجد میں مشغول عبادت رہے، تین بجے کے قریب ہمیں کمرہ پہنچایا گیا۔

اب ہمیں ہدایت ملی کہ مسجد میں جاری مذاکرہ میں چاہیں تو شریک ہو جائیں ہم نے مسجد میں دیکھا کہ ایک واعظ کے ذریعہ رمضان، قرآن پاک، نیک اعمال، روح کو پاکیزہ کرنے والے اسباب بتائے جا رہے ہیں پھر حلقے بنائے گئے دو آدمی کی جوڑی بن گئی اور قرأت قرآن کا مذاکرہ ہونے لگا اذان و اقامت، کلمہ طیبہ، مخصوص دعاؤں اور فرائض واجبات نماز، سنن وضو، مستحبات کے مذاکرہ کا نظم ہے۔

حضرت تھانویؒ کی اہم اصلاحی کتب کے انتخابات کے پڑھنے کی تلقین جاری ہے، مسجد میں تعلیم و تعلم، تربیت و تزکیہ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہندوستان کے کونے کونے سے علماء کا طبقہ کشاں کشاں کھنچا چلا آیا ہے اور اس

روح پرور ماحول دل گرما دینے والی فضا ضمیر روشن کر دینے والے عظیم روحانی بزرگ و پیشوا کے بچھائے خوان معرفت کی خوشہ چینی کر رہا ہے۔

جیسے ہی ہم مسجد کے نورانی ماحول تعلیم و تربیت کو سرسری طور سے دیکھ کر نکلے تھے کہ حضرت نے طلب فرمایا، دست بوسی کے لئے ہم خدام حاضر ہوئے، آپ حضرات نے مسجد میں جاری اعمال کا مشاہدہ فرمایا؟ جی حضور! ہم نے شرکت کی، از حد مسرت ہوئی، فائدہ پہنچا، دل پر یہ ماحول اثر انداز ہوا، دیکھئے یہ سب نقل ہے، ہمارے اندر کچھ نہیں، ہم حضرت تھانوی کے فرامین، ہدایات، احکام اور وضع کردہ اصول کے نفاذ اور نقل کی کوشش کرتے ہیں ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ حضرات جواں سال ہیں، آپ کا علم تازہ ہے، قوی مضبوط ہیں، آپ حضرات ہی کچھ کر سکتے ہیں میں ناتواں کمزور کیا کر سکتا ہوں، بس نقل کی کوشش کئے جا رہا ہوں بس اللہ اصل بنادے۔

پھر ایک وقفہ ہوا ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ حضرات سہارنپور سے آئے ہیں؟ حضرت کا حکم ہے کتب خانہ دکھلایا جائے، ہمارے لئے اس سے بڑی خوش خبری کیا ہوتی، مچھلی کی یہی خواہش کہ پانی میں پہنچا دی جائے، طالب علم کی خواہش کتب خانے میں پہنچا دیا جائے بصد شوق حاضر ہوئے حضرت کے حکم سے متعدد رسالے ہمیں بطور تحفہ دئے گئے، اسی اثناء میں تحقیقاتی کمیشن آپ پہنچا پھر کچھ نئے سوالات کئے اور روانہ کیا۔

حضرت نے آٹھ بجے صبح سے پہلے پھر باریابی کے شرف سے نوازا، مدارس میں مدرسین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ منتظمین کی ذمہ داری کیا ہے؟ طلبہ کس طریقہ سے مصروف تعلیم رہیں؟ جیسے موضوعات پر ہدایت کا چشمہ حیات اہل پڑا، فرمایا مدرس کو اپنے مفوضہ امور سے سروکار رکھنا چاہیے، انتظامی امور میں بالکل دخل نہ دیں، ہاں جب منتظم خود مشورے چاہے تو اعانت سمجھتے ہوئے مشورہ دے اور اس انتظار میں کبھی نہ رہے کہ اس کے دئے ہوئے مشورے کے مطابق منتظم نے عمل کیا یا نہیں۔

اخلاص قبولیت کی شرط اولین و آخرین ہے، طلبہ کو چاہئے کہ جب وہ شروع سال میں فارم داخلہ بھریں تو اس کی نقل اپنے پاس رکھیں کیوں کہ جس قدر شرائط داخلہ فارم میں درج ہوتے ہیں ان پر دستخط کرنے کے بعد طالب علم نے عہد و پیمان کر لیا، اب کسی شرط، کسی اصول، کسی ضابطہ کی خلاف ورزی، عہد شکنی کے زمرہ میں داخل ہے، وکان عہدہ مسنولا اگر طالب علم اس امر کا لحاظ رکھے تو کامیاب طالب علم بن کر ترقیات کی راہ پر گامزن ہوگا، منتظم کو چاہئے کہ وہ خود کو مدرسہ، طلبہ، اساتذہ کا خادم سمجھے کبھی برتری و تفوق کا شکار نہ ہو، پھر فرمانے لگے یہ عجیب بات ہے کہ تمام مدارس کے لوگ اشتہار کیلنڈر میں بڑے فخر کے ساتھ لکھتے ہیں ہمارے مدرسہ میں مہمانان رسول ﷺ کی تعداد اتنی ہے! بتائیے کیا طلبہ کے ساتھ ایک عام مہمان کا سا سلوک مدارس میں کیا جاتا ہے؟ آپ جو لکھتے ہیں اس کے مطابق معاملہ کیجئے اچھی تعلیم اچھی خوراک اچھی پوشاک اچھی نشست گاہ اچھی

قیامگاہ کا انتظام کیجئے، اچھی تربیت کیجئے، ان کو مہمان رسول ﷺ کی طرح عزیز از جاں رکھئے۔

سلسلہ کلام جاری تھا کہ ایک آگاہ کرنے والے نے کہا حضرت! تفسیر کا وقت ہو گیا ہے، فرمانے لگے چلئے

تھوڑی تاخیر ہی سہی یہاں بھی تو اہم باتوں کا تذکرہ اہم لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے۔

فرمانے لگے حضرت تھانویؒ نے بہت غور و خوض کے بعد فائدہ پہنچانے کے لئے تفسیر بیان القرآن مرتب

فرمائی، علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے جب اُسے دیکھا تو ایک ہی مجلس میں موجودہ حصہ ختم کر کے فرمایا اب مجھے اطمینان ہے کہ اردو میں بھی دینی علوم منتقل ہو گئے۔

فرمایا: حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن عام لوگوں کے سمجھنے کیلئے لکھا، گو عوامی سطح کے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔

مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے معارف القرآن کو بہت آسان بنادیا، یہ تفسیریں عام لوگوں کے لئے لکھی گئیں کہ

لوگ پڑھیں سمجھیں رہنمائی حاصل کریں اور عمل کر کے فلاح یاب ہوں لیکن اس سلسلہ میں بے توجہی کی حد ہو گئی

لوگوں نے صرف تلاوت پر اکتفا کر لیا جب کہ تلاوت خود ایک مستقل عبادت ہے اور قرآن سمجھنا مستقل عبادت

ہے اس ضرورت کو محسوس کر کے ہم نے سب سے پہلے اشرف المدارس میں تفسیر بیان القرآن کا سلسلہ شروع کیا،

انداز بہت سہل، وقت بہت مختصر، ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ منشاء قرآن سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس درس قرآن

کے شریک طلبہ پر بڑے مفید اثرات مرتب ہوئے۔

جس روزو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما کی تفسیر بیان کی گئی اس دن ایک طالب علم آیا اور کہنے

لگا حضرت! میں چوری کا مرتکب ہوں کیا کروں؟ پوچھا گیا آپ نے کہاں اور کیسے چوری کی؟ وہ کہنے لگا دودھ

تقسیم کرنے پر مقرر کیا گیا تھا میں یا تو طلبہ کو مقررہ حصہ سے کم دیتا یا پانی ملا دیتا اور بچا ہوا دودھ خود پی جاتا اب

میں کیا کروں؟ ہم نے اسے تسلی دی اور استفسار کیا یہ بتاؤ اندازہ کے مطابق دودھ کی کتنی مقدار چوری کی جب

مقدار طے ہو گئی تو قیمت کا اندازہ کیا گیا اب طالب علم کے پاس کہاں کہ وہ ادا کرے، صورت اسی نے یہ تجویز کی

کہ اتنے مہینے مطبخ سے ملنے والا دودھ اپنے حصہ کا میں نہیں لوں گا تا کہ برابر ہو جائے تو بہ تلہ الگ رہا۔

فرمایا قرآن کریم کے اندر جو قبیح اثر ہے وہ اور کسی کتاب اور کسی تالیف میں ہرگز نہیں اس لئے عزیز و قرآن

کے درس کو عام کیجئے!

حضرت نے اس دن کا درس قرآن مقررہ وقت سے بیس منٹ تاخیر سے شروع فرمایا یہ تھی حضرت کی اصول پسندی،

ضابطہ بندی، وقت کی پابندی کی حیثیت کے مقاصد کے حصول کے لئے یہ چیزیں تھیں جب مقصد کا حصول ان کی

تقدیم و تاخیر میں ہوتا تو بلا تکلف ایسا کرتے۔

اس سہارنپوری وفد سے تحقیقاتی کمیشن پھر آ ملا اور اس نے رپورٹ میں کہارات کے وقت میں دو ملازم متعین

رہتے ہیں ایک رخصت پر تھا دوسرے پر دوہری ذمہ داری آگئی جس کی وہ تاب نہ لاسکا اور دروازہ کھول کر تھکا ہارا نیند کا مارا جا کے سو پڑا اس لئے آپ حضرات کو زحمت ہوئی ہم بھیم قلب معذرت کرتے ہیں یہ جملے سن کر ہمیں بہت شرمندگی کا احساس ہوا ہمیں ہر طرح کی راحت پہنچی، حضرت کی شفقت و عنایت اور خصوصی توجہ نے ہمیں باغ باغ کر دیا۔

حضرت نے ہم ناکاروں کو پھر یاد فرمایا اور پوچھنے لگے اب جانے کا پروگرام ہے کس ٹرین سے ارادہ ہے، کار ہمارے ساتھ ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے ریل گاڑی سے سفر نہیں کیا گیا وفد کو الوداعیہ جملہ سے رخصت فرمایا، مولانا محمد سعیدی صاحب (ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور) سے کچھ گفتگو فرمائی، راقم نے تنہائی میں کچھ عرض کیا اور حضرت کے قیمتی جواہر پارے سے تابندگی حاصل کرنے کی کوشش کی۔

اس ملاقات، زیارت، عنایت اور حد درجہ کرم فرمائی کا اثر بار بار کھینچ کر ہر دوئی کے گلستاں میں گل چینی کیلئے لے جاتا رہا ان گلوں سے دل کے گل دان کو کس قدر سجایا، یہ جانے رحمان، اب دل بیقرار بصارت و بصیرت کے گل چراغ لئے چراغ جلانے والے کو ڈھونڈ رہا ہے، کہیں وہ چراغ نظر نہیں آتا۔

☆☆☆

سفرِ اربعہ کی ضرورت

عالمی شہرت یافتہ قدیم دینی تعلیمی مرکز مظاہر علوم (وقف) سہارنپور کیلئے جفاکش، مخنتی، دیانتدار، تجربہ کار اور مستعد سفراء کی ضرورت ہے۔

مدرسہ کے مسلک و مشرب کی ترجمانی کرنے والے حضرات کو ترجیح دی جائے گی۔

مشاہرہ حسب لیاقت دیا جائے گا۔

خواہشمند حضرات درج ذیل پتہ پر رابطہ قائم فرمائیں۔

دفتر مظاہر علوم (وقف) سہارنپور فون نمبر 0132-2653018

آہ! وہستی ہمارے درمیاں سے اٹھ گئی

مولانا عزیز النبی مظاہری، خانقاہ شاہ ابرار بریلی گیٹ، رام پور، یوپی

فقہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات سے پیدا ہونے والے زخم ابھی مندمل بھی نہ ہوئے تھے اور ان کی جدائی سے ابھی آنکھیں نم ہی تھیں کہ میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ محمد ابرار الحق صاحب نے بھی داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔

کچھ یاس سے تسکین دل مضطر کو ہوئی تھی

پھر چھیڑ دیا زخم جگر ہائے تمنا

حضرت فقہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کے بعد سے مسلسل یہ جستجو اور خصوصی حلقہ میں گفتگو رہی کہ اب اپنے ان گناہ گار ہاتھوں کو اصلاح کے لئے کس شخصیت کے ہاتھ میں دیا جائے منجانب اللہ قلب میں بار بار یہ داعیہ پیدا ہوتا رہا کہ ابھی سلسلہ تھانوی کے آخری چراغ محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی حیات ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے، اس لئے اس داعیہ کو امر الہی تصور کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی معالج بنانا طے کر لیا۔

۱۳ جولائی ۹۸ء کو رام پور میں حضرت والا کی نسبت سے حضرت محی السنۃ کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد عبد اللہ پھولپوری کے ذریعہ خانقاہ شاہ ابرار کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے حضرت والا کے خلفاء و متعلقین اور مریدین و متشعبین کی یہاں آمد و رفت شروع ہو گئی، راقم الحروف نے ہر دوئی حضرت والا کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر کارگزاری بھی گوش گذاری کی، خانقاہ شاہ ابرار کے نام سے مطبوعہ لیٹر پیڈ بھی پیش کیا، خوشی کا اظہار فرمایا اور بطیب خاطر خانقاہ شاہ ابرار رامپور کے قیام کی اجازت و تائید فرمائی۔

۲۰ اگست ۲۰۰۰ء میں فقہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین اور مولانا محمد سعیدی کا سفر رامپور ہوا، اس موقع پر حضرت فقہ الاسلام نے خانقاہ شاہ ابرار کا باقاعدہ افتتاح فرمایا، جب ہی سے حضرت والا ہردوئی کی خدمت میں ہم خدام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔

حضرت فقہ الاسلام کے وصال کے بعد حضرت ہردوئی کی پرکشش شخصیت کی طرف طبیعت راغب ہونے لگی اس لئے مولانا محمد سعیدی ناظم مظاہر علوم (وقف) و جانشین فقہ الاسلام سے عرض کیا کہ ہردوئی اس غرض سے حاضری کا ارادہ ہے آپ بھی تشریف لے چلیں۔

مولانا موصوف فوراً تیار ہو گئے اور شمشاہی امتحان کے بعد چلنے کو کہا جس کیلئے پیشگی رزرویشن بنوایا گیا، فون

کے ذریعہ حضرت والا کے خادم مفتی فہیم صاحب بجنوری اور بھائی ارشد صاحب خادم حضرت والا کو اطلاع دی کہ ہم دونوں بغرض بیعت حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ حضرت اتنی جلد کسی کو بیعت نہیں فرماتے بلکہ بسا اوقات سال بھر اور چھ ماہ تو تقریباً مکاتبت و مراسلت ہی میں لگ جاتے ہیں اس لئے مفتی فہیم صاحب بجنوری سے اپنی آمد کی غرض بھی عرض کر دی گئی انہوں نے فرمایا کہ آپ دونوں حضرات قصد السبیل، جزاء الاعمال اور حقوق الاسلام ان تینوں کتابوں کا مطالعہ کر کے آئیں، چنانچہ ہم دونوں نے ان کا مطالعہ کیا۔

جمعرات کی صبح تقریباً ساڑھے نو بجے ہماری ٹرین ہر دوئی پہنچی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ دونو جوان شرعی وضع قطع، نورانی چہرہ، تھانوی پنچ کلی ٹوپی لگائے ٹرین میں سرگرمی کے ساتھ کسی کو تلاش کر رہے ہیں ان میں ایک نوجوان حافظ ثکلیل احمد صاحب (جو پہلے ہمارے مدرسہ کاشف العلوم کے طالب علم رہ چکے ہیں) بھی تھے ان سے ملاقات اور مصافحہ کے بعد میں نے معلوم کیا کہ آپ لوگ کس کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہیں وہ دونوں ایک ساتھ بولے کہ کیا آپ کے ساتھ مدرسہ مظاہر علوم وقف کے ناظم مولانا محمد سعیدی صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں نے کہا جی ہاں! تو وہ استفہامی نظروں سے دیکھنے لگے۔

مولانا محمد سعیدی نوجوان، متوسط القامت، متناسب الاعضاء اور بہت ہی سادگی پسند و سادہ طبیعت رکھنے والے فرد ہیں، ان کو دیکھ کر ایک عام انسان قطعاً اندازہ نہیں کر سکتا کہ دنیائے اسلام کے دوسرے بڑے ادارے مظاہر علوم (وقف) کے یہ ناظم ہو سکتے ہیں۔

بندہ نے ناظم صاحب کا تعارف کرایا تو وہ نوجوان بولے کہ

”ہمیں حضرت والا نے آپ کو اسٹیشن پر لینے کیلئے بھیجا ہے، گاڑی اور ڈرائیور باہر موجود ہیں“

یہ سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کہاں حضرت والا کا مقام و مرتبہ اور کہاں ہم خوردوں پر یہ شفقت و عنایت، ہم لوگ گاڑی میں پہنچے، ایئر کنڈیشن گاڑی تھی جیسے ہی مدرسہ اشرف المدارس کے گیٹ پر ہماری گاڑی رکی تو مفتی فہیم صاحب بجنوری استقبال کے لئے موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ

”کئی مرتبہ حضرت والا آپ لوگوں کو معلوم کر چکے ہیں۔“

ہمیں مہمان خانہ میں ٹھہرا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد مہمان خانہ کے بجائے حضرت والا کے مکان سے ناشتہ آیا اور ہم لوگوں کو آرام کا حکم مل گیا، حضرت والا کو آمد کی اطلاع مل چکی تھی اس لئے بعد نماز ظہر ملاقات و زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک عریضہ کے ذریعہ ہم لوگوں نے بیعت کی درخواست کی جو اباً اطلاع ملی کہ آپ لوگ بعد نماز مغرب کمرہ خاص (نشست گاہ حضرت والا) پر حاضر ہو جائیں یہ سن کر ہماری حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عصر سے قبل اطلاع آئی کہ

”آپ لوگ بعد نماز عصر چائے پر حضرت والا کی خصوصی نشست گاہ میں پہنچ جائیں۔“

حسب اجازت ہم لوگ حجرہ خاص میں پہنچے، ہمیں دیکھ کر حضرت والا نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور مولانا محمد سعیدی صاحب ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور کو اپنے پہلو میں بیٹھا کر ان سے نہایت شفقت آمیز گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجلس کا وقت شروع ہو گیا اور مجلس شروع ہو گئی، اذان مغرب کے قریب مجلس اختتام پذیر ہوئی سب لوگ مسجد تشریف لے گئے، بعد نماز مغرب پھر حجرہ خاص میں حاضری ہوئی، حضرت والا نے معلوم فرمایا کہ آپ لوگ با وضو ہیں یا نہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم با وضو ہیں! وضو کر کے آئے ہیں! تب حضرت نے دونوں کے ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر بیعت فرمایا جس پر ہم لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔

بیعت کے بعد راقم نے عرض کیا کہ حضرت! مظاہر علوم وقف کی ذمہ داری مولانا محمد سعیدی پر آپڑی ہے، آپ ان کی اور مدرسہ کی سرپرستی فرمائیے، حضرت والا نے تھوڑے تو قف کے بعد فرمایا کہ

”وقتاً فوقتاً مشورہ کرتے رہیں جو بات ضروری ہوگی بتادی جائے گی“

اس کے بعد مولانا حسب الحکم حضرت سے اپنے ذاتی اور مدرسہ کے اہم امور میں مشورے لیتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ حضرت والا نے فرمایا

”جس پر بڑوں کی طرف سے کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو منجانب

اللہ اس کی رہنمائی ہوتی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ کی نصرت فرمائے۔“

اس کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور روانگی کی تیاری ہوئی بوقت رخصت حضرت والا نے پھر اپنے کمرہ میں بلایا اور بہت سی نصیحتیں فرمائیں، معاف فرمایا اور دعائیں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

”آپ ہمارے استاذ (قاری سعید احمد صاحب اجراڑوی) کے پوتے ہیں، آپ کے آنے سے

ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، آپ کی روانگی کیلئے گاڑی کا نظم کر دیا گیا ہے جو آپ کو اسٹیشن تک پہنچائیگی اگر


آپ کی ٹرین میں کچھ تاخیر ہو تو اسٹیشن سے متصل حاجی کبیر صاحب کے یہاں آرام کر سکتے ہیں۔“

ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے مگر یہ کس کو معلوم تھا کہ دوسرے سال ۱۸ مئی ۲۰۰۵ء کو ہم سے ہمیشہ کیلئے رخصت ہو جائیں گے۔

مولانا محمد سعیدی صاحب کی سعادت و خوش نصیبی دیکھئے کہ وہ انتقال کے روز حضرت والا سے دیر تک محو گفتگو رہے اور یہ حقیر مولانا محمد سعیدی کی یاد فرمائی کے باوجود وہاں پہنچنے سے قاصر رہا، سچ ہے یہ سب تقدیر الہی کا فیصلہ تھا جس پر راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آج ہزاروں سوگواروں کے ساتھ جنازہ میں شرکت کے موقع پر کل گذشتہ حاضر نہ ہو پانے کی حسرت بار بار ستاتی رہی۔

جان کر منجملہ خاصان میخانہ تھے
مدتوں رو یا کریں گے جام و پیانہ تھے

فصل گلا



اندر چمن

مفتی نذر تو حید مظاہری

محی السنۃ حضرت الحاج مولانا شاہ ابرار الحق حق مظاہری ہر دوئی ایک عظیم مصلح و مربی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپؒ سے احیاء سنت و اصلاح امت کا بہت بڑا کام لیا ہے، تصحیح قرآن آپؒ کو خصوصی مناسبت تھی، ہر مقام پر تصحیح قرآن کے ساتھ تعلیم قرآن پر زور دیتے اور اس کا طریقہ بھی بتلاتے۔

جامعہ مظاہر علوم کے مایہ ناز فاضل و فرزند حضرت مولانا نور محمد لدھیانویؒ کے قواعد تجوید کے مطابق مرتب کردہ ”نورانی قاعدہ“ پڑھنے پڑھانے کا رواج آپؒ کی مثالی قربانیوں کا مرہون منت ہے، ہر دوئی میں علماء و فضلاء اور معلمین کی تدریس کیلئے باضابطہ ایک شعبہ قائم فرمایا تھا جہاں ”نورانی قاعدہ“ کا طریقہ تعلیم بتلایا جاتا ہے جس سے استفادہ کے بعد لوگ اس سچ کو اپنا کر کم وقت میں تصحیح قرآن پر قابو پا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس طریقہ تعلیم کو رواج دیتے ہیں چنانچہ یہ حضرت والاؒ کے خلوص کی برکت ہے کہ آج اس طرح کی تعلیم کا رواج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک و امصار میں بھی ہو گیا ہے جو حضرت محی السنۃؒ کا بہت بڑا فیض و کارنامہ ہے اور یقیناً زندہ جاوید کرامت ہے۔

مدرسہ امداد العلوم انکی ضلع رانچی میں ۵ دسمبر ۱۹۹۳ء مطابق ۲ جمادی الثانیہ ۱۴۱۴ھ بروز یکشنبہ جلسہ دستار بندی طے تھا حضرت محی السنۃؒ نے اس میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی تھی، ۴ دسمبر ۱۹۹۳ء کو حضرت محی السنۃؒ سیالده ایکسپریس سے گیا پہنچے، گیا سے چتر کے راستہ سے انکی جانا طے ہوا اور نظام یہ مرتب ہوا کہ ناشتہ مدرسہ قاسمیہ گیا میں، نماز ظہر اور ظہرانہ یہاں جامعہ رشید العلوم چتر میں، ظہر کی نماز کے بعد چتر اسے روانہ ہو کر بابو ناتھ، چندوا، ارسونس وغیرہ ہوتے ہوئے انکی جانا ہے، مدرسہ قاسمیہ گیا میں ناشتہ سے فارغ ہو کر حضرت والاؒ نے بذریعہ فون راقم سے فرمایا کہ ”پیٹ ہے تھلا نہیں ہے اس لئے کھانا چتر میں نہیں کھاؤں گا البتہ ناشتہ دان میں رکھ دیا جائے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں کھالیا جائے گا۔“

حضرت محی السنۃؒ جامعہ اسلامیہ رشید العلوم چتر اشریف لائے، حضرت کے استقبال میں طلبہ، اساتذہ اور اہل شہر موجود تھے، اس مجمع کو دیکھ کر حضرتؒ نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف کے لئے ایک جماعت ہے، نہی عن المنکر کیلئے

بھی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جامعہ میں مسجد زیر تعمیر تھی اس لئے مدرسہ کے برآمدہ میں جماعت ہوتی تھی تو فرمایا کہ مسجد میں نہ جانے کے اعذار کو فقہاء نے بیان کیا ہے اور یہاں ان میں سے کوئی عذر نہیں ہے اس لئے میں نماز کے لئے مسجد جاؤں گا تا کہ مسجد کے ثواب سے محرومی نہ ہو چنانچہ حضرت والا نماز ظہر کے لئے خانقاہ والی مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں لائین لٹک رہی تھی اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں جاتا ہوں، لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہاں مسجد میں لائین لٹک رہی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں بھی ایسی جگہ نماز نہیں پڑھوں گا جہاں فرشتوں کو اذیت ہو رہی ہو۔ فوراً لائین کو مسجد سے باہر کیا گیا اور حضرت سے وعدہ کیا گیا کہ مسجد میں مٹی تیل والی لائین نہیں جلائیں گے، نماز سے فراغت کے حضرت سے مصافحہ کے لئے لوگ بڑھے تو حضرت محی السنۃ نے فرمایا کہ تین حدیثیں سنو گے یا مصافحہ کرو گے، لوگوں نے عرض کیا کہ حدیثیں سنیں گے تو آپ نے مسجد کے صحن میں کھڑے کھڑے احادیث سنائیں اور مسجد سے نکل کر گاڑی پر سوار ہو گئے، اسی طرح بالوناتھ سے گزرتے ہوئے چندہ پہنچے، چندہ میں روڈ پر واقع یعقوب ہوٹل میں عصر کی نماز پڑھی گئی اور نماز کے بعد فرمایا کہ کھانا لاؤ! دسترخوان بچھایا گیا جس پر اشعار لکھے ہوئے تھے تو آپ نے اس دسترخوان کو اٹھوا دیا اور فرمایا کہ یہ حروف کی بے ادبی ہے اور ادب کے خلاف ہے کہ ایسے دسترخوان کو استعمال کیا جائے کہ جس پر کچھ تحریر ہو چنانچہ اپنا دسترخوان طلب فرمایا جو سادہ کپڑا تھا اسے بچھایا گیا اور کھانا تناول فرمایا اس کے بعد میسوکرا، سونس، بیجو پاڑہ ہوتے ہوئے انکی پہنچے، حضرت والا جہاں جہاں سے گزرے مساجد سے مٹی تیل والی لائین ہٹتی چلی گئی، اس تاریخ سے پورے خطہ میں مساجد میں جلی بند ہو گئی۔

بعد مغرب انکی پہنچے، حضرت والا نے جامع مسجد انکی میں عشاء کی نماز ادا فرمائی اور مسجد کی صفائی، قرآن کریم و جزدان کی صفائی ستھرائی وغیرہ کی طرف توجہ دلاتے رہے، مصلیٰ کی صفائی اور صفوں کی ترتیب پر بھی توجہ دلاتے رہے، فجر بعد بھی لوگوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی توجہ دلائی اور منکرات سے بچنے کی ہدایات فرماتے رہے۔

جلسہ دستار بندی کا پروگرام ارباب مدرسہ نے مرتب کیا، حضرت والا نے فرمایا کہ پروگرام مجھے دکھایا جائے، پروگرام میں چند مقررین کے بعد حضرت والا کا خطاب تھا، اس مرتب شدہ پروگرام کو لے کر مولانا خورشید احمد صاحب مہتمم مدرسہ امداد العلوم انکی اور مولانا منظور عالم قاسمی لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے ملاحظہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلے میری تقریر ہوگی چنانچہ حضرت والا نے تعلیم قرآن کی اہمیت، تصحیح قرآن کے طریقوں، معروف و مجہول میں فرق، سنتوں کی اہمیت و ضرورت اور منکرات پر تنبیہ فرمائی، تقریر یاد و گھنٹہ تک یہ وعظ جاری رہا اور آپ ہی کی دعا پر یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

حضرت محی السنۃ کی تشریف آوری کی برکت آج بھی اس خطہ میں نظر آتی ہے کہ مساجد میں مٹی تیل والے لائین جلنے بند ہو گئے، منکرات میں کمی آئی، اللہ تعالیٰ ہم سبھی پس ماندگان کو حضرت والا کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے آمین۔

مادہائے تاریخ وصال سلطان زماں مولانا ہردوئی

۵ ♦ ♦ ۲ ۶

۱۲۲۶ھ	۲۰۰۵ء
ان کتاب الابرار لفی علیین، یوم الحساب	شمع کاشانہ رہبر راہ خدا
وقت سعید ان الابرار لفی نعیم	خادم خاص مرد کامل مولانا عبداللطیف
ان المتقین فی جنت النعیم	عمدۃ الامرا رہبر راہ خدا
پاک دامن شہ ابرار سراپردہ وصال	صاحب درجات تشریف می برند
زین عالم رہبر راہ خدا	خندہ گل تشریف می برند
تشریف می برند، بقائے ابدی	مستقر صلاح اشرف المدارس
مالک گلزار اشرف المدارس	داعی حق حضرت ابرار
گرامی محل اشرف المدارس	جائے سرور خانقاہ مولانا ابرار الحق ہردوئی
حاتم روزگار ابرار الحق	حضرت مولوی ابرار صاحب
گلشن اقالیم دعوت الحق ہردوئی	تھے مظاہر وقف کے قبلہ نما
پرواز بلبل مظاہر	تھے مظاہر وقف کے آب گہر
صوفی زماں محی السنۃ ابرار الحق	ہو گیا گل بزم اشرف کا چراغ کوکبی
سلطان دنیا بسوئے جنت	علامہ زماں حضرت مولانا ہردوئی
مسعود زماں محی السنۃ ابرار الحق	شاہ ابرار الحق مظاہری

معدن احسان محی السنۃ ابرار الحق	قطب دہرا ابرار الحق اشرف المدارس ہردوئی
ہدم صادق محی السنۃ ابرار الحق	پاک دامن مولانا سید ابرار الحق اشرف المدارس ہردوئی
محی السنۃ ابرار الحق بعالم فانی	قطب الاقطاب ابرار الحق نگر اشرف المدارس
رونق چمن مولانا شاہ ابرار الحق	چراغ آخر
شمس العلوم شاہ ابرار الحق	صوفی دہر ناظم دعوت الحق
بلبل بستاں شاہ ابرار الحق	منیع کرم فرزند مظاہر چل بسا
عارف زماں شاہ ابرار الحق	ماہ مجلس مولانا ابرار الحق بانی اشرف المدارس ہردوئی
جانشین وحید زماں شاہ اشرف	سال وفات صاحب نگاہ مولانا ابرار الحق
ولی سق ابرار الحق حق پر محمود الحق حق	سال وفات پاکیزہ قلب مولانا ابرار الحق
طالب جنت ابرار الحق ابن محمود الحق	دیار خطہ صالین میں سپرد خاک
ناظم افروز عالم	طجائے عالم تھانوی چراغ بھی گل ہو گیا
اہل طریقت مولانا ابرار الحق	
معدن جود و کرم مولانا ابرار الحق مجاز پھولپوری	
مقبول عالم مرجع الانام مولانا ابرار الحق	
مکان آرائش خطہ صالین	
حقیر ناچیز ابوریحان ناصر الدین لکھیم پوری	ناتواں ناصر مظاہری

شہر سہارنپور میں آئینہ مظاہر علوم یہاں بھی دستیاب ہے

انور بک ڈپو

متصل پوسٹ آفس مظاہر علوم وقف سہارنپور

Ph-0132-3093148-9319525458

Fax-2659686



کاروانِ اہل حق اس پر نہ کیوں ہو غمزہ
کاررواں کے سر سے میر کارواں جاتا رہا

حضرت مولانا نسیم احمد غازی مظاہری

اے برار الحق چہ احساں کردہ

حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب پر تاب گڑھی دامت برکاتہم
(خلیفہ و مجاز محی السنۃ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ)

اے برار الحق چہ احساں کردہ	ماہ جانم را چہ تاباں کردہ
نقش پائے انبیاء و اولیاء	پیشوائے بارگاہ کبریا
جان خود با جان تو دریافتم	زیں گدائی صد حیاتے یافتم
اندرون فقر شاہی دیدہ ام	خواجگی اندر گدائی دیدہ ام
اے کہ ممونت دلِ بیمار من	اے جنید و رومی و عطار من
چشم ما در ہجر چوں خونریز شد	بہر جانم شہر تو تبریز شد
انت شیخ انت مصباح الطريق	انت لی نعم الصدیق والرفیق
یا جیبی انت کالشمس المنیر	ہم چو مہ نورم ز نورت مستنیر
اے برار الحق خدائے برترت	گوہر رحمت بیارد بر سرت
پیش نور آفتاب اے برار	اختر و صد اختراں را چہ شمار

من چہ گویم پیش تو شکر و ثنا

آفتاب آمد و اختر شد فنا

کارواں کے سر سے میر کارواں جاتا رہا

حضرت مولانا نسیم احمد غازی مظاہری مدظلہ العالی، شیخ الحدیث جامع الہدیٰ مراد آباد

میکدہ ویراں ہوا پیر مغاں جاتا رہا
ساغر و جام و سبو سب ہیں حزین و سوگوار
تھا حکیم الامتِ تھانہ بھون کی یادگار
خانقاہ تھانوی کا آخری تاباں چراغ
جانشینِ حکیم الامتِ تھانہ بھون
لرزہ بر اندام ہے ملت کا ہر فردِ حزیں
حسنِ فطرت سے منور جو رخ ابرار تھا
دید جس کی تھی دوائے دل علاج ہو خلش
ذرے جس کے فیض سے خورشید تاباں بن گئے
ابرِ رحمت بن کے برسا جو فضا پر مدتوں
سرزمینِ ملتِ اسلامیہ زرخیز ہے
جب ہوئے شوق اور جذباتِ دروں حد سے فزوں
بادہ طیبہ کا ساقی ہو گیا روپوش آہ
تاجدارِ علم و عرفاں اہل دل کا پیشوا
جس کے عزم و حوصلے سے پست تھا کوہِ بلند
کیوں نہ روئے ملتِ غمگین اس محسن کو جو
تھانوی میخانہ کاؤف پاسباں جاتا رہا
آج میخانے سے ساقی مہرباں جاتا رہا
ہردوئی میں آخری تاباں نشاں جاتا رہا
دیکے صدموں کی ہمیں تاریکیاں جاتا رہا
ایک امانت تھی وہ اس کا پاسباں جاتا رہا
ملتِ بیضاء کاہائے پشتیاں جاتا رہا
جلوہ ریزی مدتوں کر کے کہاں جاتا رہا
آہ وہ ہی تاجدارِ مہوشاں جاتا رہا
جلوے برسا کر جہاں میں ضوفشاں جاتا رہا
گلستاں کو دے کے وہ شادابیاں جاتا رہا
اس زمیں سے رحمتوں کا آسماں جاتا رہا
لے کے دل میں اشتیاقِ مستعیاں جاتا رہا
ہرزباں پر ہے کہ جانِ میکشاں جاتا رہا
سیدِ ابرار، امامِ عالماں جاتا رہا
بہر حق کر کے وہ سعی بیکراں جاتا رہا
دین کے سمجھا کے اسرارِ نہاں جاتا رہا

وہ فرائض اور سنن کی حکمتوں کا آشنا
 لذت و فرحت بھی ہے اور عزت و راحت بھی ہے
 جس کی انتھک کوششوں سے ہمت مرداں تھی ماند
 دے کے تجوید قرآن پاک و سنت کو فروغ
 میکدے اور جام و پیمانہ کو کہہ کر الوداع
 دل میں برپا ہو گیا جب جوش وصل یار کا
 باغ ہستی میں بہارِ سنتِ خیر الوری
 ظلمتِ بدعت میں روشن کر کے سنت کا چراغ
 جس کو لرزاں کرنے پائے حادثاتِ زندگی
 تھہر دیت اور راحت جس کا ہر زریں اصول
 بہر اہل حق جو روح و راحت و تسکین تھا
 جس کا ثانی کوئی اخلاق و مروت میں نہ تھا
 خدمتِ احیاءِ سنت پر لگا کر زندگی
 خلق کی اصلاح کا جس کو ہوا جذبہ نصیب
 جس پہ نازاں تھے اکابر اور اصاغر سب کے سب
 ہے وفاتِ حضرت ابرار ایسا حادثہ
 خالق ساری جس کے غم میں ہو رہی ہے اشکبار
 ہر گل و غنچہ ہوا ہے گلستاں کا سو گوار
 کاروانِ اہل حق اس پر نہ کیوں ہو غمزدہ
 تذکرہ ہر بزم میں تھا بس یہی روزِ وفات

تھا معلم حکمتیں کر کے بیاں جاتا رہا
 سنتِ احمد میں یہ کر کے بیاں جاتا رہا
 چھوڑ کر دارِ العمل کو وہ پیرِ نو جواں جاتا رہا
 رحمتوں میں از پئے آرام جاں جاتا رہا
 مستیوں میں جانِ جاں کے آستاں جاتا رہا
 مسکراتا ہنستا خنداں شادماں جاتا رہا
 کر کے شاداب اور خنداں باغباں جاتا رہا
 خندہ لب سوئے جناں خلدِ آشیاں جاتا رہا
 وہ وقار و حلم کا کوہِ گراں جاتا رہا
 وہ اصولِ زندگی کا پاسباں جاتا رہا
 اہل باطل پر تھا جو برقِ تپاں جاتا رہا
 اس جہاں سے خلق کا وہ مہرباں جاتا رہا
 آہ محی السنۃ جانِ گلستاں جاتا رہا
 وہ اصولِ تربیت کا رازداں جاتا رہا
 اُف جہاں سے آج فخرِ ایں و آں جاتا رہا
 کر کے سب کو اشکبار و غمِ نشاں جاتا رہا
 سوئے جنتِ آہ وہ جنتِ نشاں جاتا رہا
 وہ بہارِ انِ حسین کا جانِ جاں جاتا رہا
 کارواں کے سر سے میرِ کارواں جاتا رہا
 اس جہاں سے شاہ و ابرار جہاں جاتا رہا

چھوڑ کر ہم سب کو بے چین و پریشان مضطرب
 رہروں کو راہ میں اُف چھوڑ کر وہ چل بسا
 شومی قسمت ہماری ہو گئے محروم ہم
 خادموں پر جس کی رہتی مہربانی کی نظر
 عاشقانِ مصطفیٰ کا جو رہا بن کر امیر
 بلدۂ طیبہ سے دیتا تھا سدا مخمور جو
 ”موت عالم موت عالم“ کی یہی تفسیر ہے
 تاجدارِ اہل سنت شاہ ابرار جہاں
 ہو گئے رخصت محی السنۃ تاجِ اولیاء
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا وہ سپوت
 جس پہ نازاں علم و عرفان و تصوف کا چراغ
 فخر قوم و ملک و ملت شوکت ہندوستان
 عظمت اسلام کے جس نے کئے پرچم بلند
 بعد والوں کے لئے سامانِ عبرت چھوڑ کر
 شاہِ ابرار محی السنۃ حق کیا گئے
 جہل کی ظلمت میں کر کے علم کا روشن چراغ
 ہر روش جس نے سجائی تھی بہت ہی شوق سے
 پتہ پتہ گلشنِ عرفاں کا مرجھایا ہے آج
 آبیاری گلشنِ سنت کی کر کے عمر بھر
 ماحی بدعت تھا جو اور حامی سنت تھا جو -

ساتھ لے کر راحت و آرام جاں جاتا رہا
 کارواں کو کر کے وہ صیدِ فغاں جاتا رہا
 رحمت باری کا عمدہ سائبان جاتا رہا
 حیف وہ ہی مہربانِ خادماں جاتا رہا
 وہ امامِ عاشقانِ عالیشان جاتا رہا
 مستیوں میں سوئے بزمِ میکشاں جاتا رہا
 بزمِ عالم کا تھا جو روحِ رواں جاتا رہا
 ہر زباں کہتی ہے وہ شاہِ زماں جاتا رہا
 تاجدارِ علم و عرفاں بیگماں جاتا رہا
 عاشقِ قرآن و سنت عالی شاں جاتا رہا
 بزمِ عشاقِ نبی کا ترجمان جاتا رہا
 وہ نشانِ عظمتِ اسلامیات جاتا رہا
 خدمتِ قرآن پر وہ دے کے جاں جاتا رہا
 ورقہ ہستی پہ لکھ کر داستاں جاتا رہا
 سنت و دینِ نبی کا ترجمان جاتا رہا
 دے کے وہ ماحول کو تابانیاں جاتا رہا
 سینچ کر خونِ جگر سے گلستاں جاتا رہا
 چھوڑ کر بزمِ بہاراں باغباں جاتا رہا
 بزمِ سنت کو بنا کر نوحہ خواں جاتا رہا
 زندگی قربان دیں کر کے کہاں جاتا رہا

خدمتِ دیں پر لگا کر اپنی ساری زندگی
 فضل فرما بخش دے تو حضرت مرحوم کو
 بخش دے اور جنت الفردوس میں دیدے مکاں
 طالبِ غفران حاضر ہے درِ غفار پر
 بخش دے اس غازی عاصی کو بھی اے رب غفور
 مغفرت فرما دے ساری امت محبوب کی
 خادمِ دین نبی سوئے جتاں جاتا رہا
 تیرا بندہ ترے در پر مستعاں جاتا رہا
 تیرا بندہ جانبِ دارِ جتاں جاتا رہا
 لے کے امیدِ عنایتِ ناتواں جاتا رہا
 راہِ عصیاں پر حقیر و ناتواں جاتا رہا
 بالخصوص اس کی جو در پر مستعاں جاتا رہا

دل پہ غازی زخم کتنے لگ رہے ہیں پے پے
 جس پہ دل مائل ہوا وہ جانِ جاناں جاتا رہا



نرخ اشتہار آئینہ مظاہر علوم سہارنپور

(۱) بیک ٹائٹل 4 کمر	5000 روپے
(۲) بیک ٹائٹل نصف صفحہ 4 کمر	3000 روپے
(۳) ٹائٹل کا اندرونی پہلا صفحہ	2500 روپے
(۴) بیک ٹائٹل کا اندرونی صفحہ	2000 روپے
(۵) بیک ٹائٹل کا اندرونی نصف صفحہ	1500 روپے
(۶) اندرونی صفحہ مکمل	1000 روپے
(۷) اندرونی صفحہ نصف	600 روپے

نوٹ:- پورے سال کے لئے 10% کی مزید رعایت ہوگی۔

☆ جاندار تصاویر اور غیر شرعی کاروبار کے اشتہارات قابل قبول نہیں ہوں گی۔

مظاہر علوم (وقف) سہارنپور فون: 0132-2653018

نذرانہ عقیدت

بخدمت حضرت اقدس مرشدی مولائی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم
مفتی محمد شعیب اللہ خان ظرفی (بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور)

حضرت ابرار کا دربار ہے یہ پر جلال	سب کو ملتا ہے جہاں عرفان کا آبِ زلال
لڑکھڑاتے ہیں جہاں بادشاہوں کے قدم	وہ یہی دربار ہے ابرارِ حق کا پر جلال
آپ کی سیرت ہے عکس سیرتِ فخرِ رسل	اور صورت آپ کی ہے نازشِ حسن و جمال
ہیں جمالی بھی جلالی بھی بحسنِ امتزاج	آپ کے اس وصف سے شرمندہ ہیں شمس و ہلال
اک نظر بھی آپ کی ہے کیمیائے لا جواب	آگئے جس سے ہدایت پر بسا بے دین و ضال
مصطفیٰ کی سنتوں کا رات دن چرچا ہے یاں	اور ہے تصحیحِ قرآن کا نظام بے مثال
فکر امت آپ کی ہے ایک وجہ امتیاز	اتباعِ شرع و سنت آپ کا رازِ کمال
حضرتِ اشرف کے سچے اور آخر جانشین	اور انہیں اسلاف کے وہ ترجمانِ بے مثال
سالمینِ راہِ حق اور عارفینِ ذاتِ حق	کر دیا سب کو رموزِ عشق و عرفاں سے نہال
علمِ کامل، زہد و تقویٰ، عشق و عرفاں لا جواب	آپ کے اوصاف سے ہیں چند یہ حسنِ خصال

ہے دعاء میری خدائے دو جہاں سے اے شعیب

آپ سے ہو رشتہ انس و عقیدت لازوال

☆☆☆

دو سال قبل مدرسہ جامعہ مسیح العلوم بنگلور میں حضرت محی السنۃ کی آمد کے موقع پر یہ نظم لکھی گئی
مگر حضرت کی اچانک طبیعت ناساز ہو جانے کی بناء پر تشریف آوری نہ ہو سکی اور حضرت والا بہمنی
تشریف لے گئے۔ (شعیب اللہ مفتاحی)

مرثیہ مولانا ابرار الحق

۶ ۲ ۴ ۱ ۵

قاری محمد قاسم لوہاروی

نوحہ خواں ہے سرزمین اور آسماں ہے اشکبار
ہو گیا گل بزم اشرف کا چراغ ضوفشاں
دین و ملت کا مجاہد مرد مومن باوقار
گو نجاتی ہے دفعتاً ہر سو خبر یہ دل خراش
غرق ہو کر رہ گیا ہے بحر غم میں اک جہاں
حادثہ سنگین رحلت کا ہوا جو آشکار
میرا مرشد، میرا ہادی، میرا رہبر چل بسا
بجھ گئی شمع فردزاں بجھ گیا روشن چراغ
داغِ فرقت دے کے رخصت ہو گئے منہ موڑ کر
تھے سراپا ذات عالی آپ کا تقویٰ شعار
رورہی ہے آج مخلوقِ خدا زار و قطار
ہو گیا نورِ ولایت حیف آنکھوں سے نہاں
حضرت ہردوئی والا نیک طینت بردبار
جس کوں کر فرطِ غم سے ہو گیا دل پاش پاش
چار جانب آج اشکوں کا سمندر ہے رواں
دامنِ صبر و تحمل کر گئی وہ تار تار
آہ وہ اک عاملِ قرآن و سنت چل بسا
ہو گیا ہردوئی بھی آج ظلمت کا شکار
نقشِ پادشاہ میں اپنا وہ گئے ہیں چھوڑ کر
اے تعالیٰ اللہ ان پر تھا یہ فضلِ کردگار

حق تعالیٰ سے ہے یہ ان کے لئے قاسمِ دعا
جنت الفردوس میں ہو درجہ اعلیٰ تر عطا

☆☆☆

آپ کی خدمت ہمارا نصب العین
دیانت و امانت اور صداقت ہمارا شعار

دیبا ٹراویل اینڈ ٹورز

حج بیت اللہ، عمرہ و زیارت کے علاوہ لوکل و انٹرنیشنل ہوائی جہاز کے
ٹکٹوں اور ریلوے ٹکٹ، بسوں کے ٹکٹ کا رعایتی اور واحد مرکز

علماء و طلباء کے لئے خصوصی رعایت کا اہم پیکیج بھی دستیاب ہے

ایک بار خدمت کا موقع دے کر آزمائیں۔

پرویز احمد اعظمی

368, GROUND FLOOR, NEW HOSTEL
MATIA MAHAL, JAMA MASJID, DELHI-6

☎ PHONES ☎

011-55697561, TEL, FAX: 23268541

MOB. 9811007765, 9350560612

پیرزادہ ایسوسی ایٹس



انجینئرس اینڈ کانٹریکٹر

تمام اقسام کے نقشہ جات خصوصاً مساجد • مدارس دینیہ

• اسٹیمپٹ • اسٹریچر ڈیزائن • پائیلنگ

• چہرہ الیویشن • واٹر ٹینک • بلڈنگ سپرویزن


کے لئے ہماری بہترین خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔



رابطہ: محمد انیس پیرزادہ (سول انجینئر)

چوک شاہ مدار سہانپو

فون: آفس - 2645792، موبائل: 9897230817، 9897830877



اس مضمون میں حضرت مولانا ابراہیم راقی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ سے دی جانے والی سند فرائض اور اس کا عکس جمیل، دورہ حدیث شریف میں حاصل کردہ امتیازی تمغرات، اساتذہ دورہ حدیث شریف کے اسمائے گرامی، نظمائے مدرسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عبداللطیف یزقاضوی، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسعد اللہ رام پوری، فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین اور جانشین فقیہ الاسلام حضرت مولانا محمد سعیدی مدظلہ العالی کے نام حضرت محی السنہ کی جانب سے ارسال کئے گئے خطوط کا عکس جمیل شامل ہے۔
(ان خطوط کی اصل کاپیاں راقم الحروف کے پاس موجود ہیں)

ناصر الدین مظاہر



9412680779

Nasiruddin Mazahiri

Sub Editor Aaina-c-MazahirUloom (Monthly)

Mazahir Uloom (Waqf) Saharanpur (U.P.)

ناصیر الدین مظاہری

معاون مدیر ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم

صدر رہنمہ مظاہر علوم (وقف) سہارنپور (یو پی)

Date

تاریخ ۱۲۲۶ھ

قرآن مجید اقدس نامہ حبیب نور عالم اسان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

موضوع کہ اولیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ترجمان ماننا آئینہ مظاہر علوم کا خصوصی شائعہ محلی السنہ نمبر تیار ہوا کہ
محل میں ہے جس شائعہ کو قریب سے وسیع تر بنائے کیلئے لازم و ملزوم کو محلی السنہ خود طوائف اہل انصاف و
نامہ حبیب نور عالم اسان ہر دور سے تسلیت میں ملے گا کہ اس

۱۱۔ حضرت محلی السنہ نے مظاہر علوم (قرآن) سہارنپور کے کس سن میں غزلیت حاصل فرمائی؟

(۱۲) ایک دورہ دعوتِ شریعت کے وقت جہاں شمس اللہ میں حاصل فرمائی؟

۱۳۔ حضرت علیہ الرحمہ کی سند کا مکمل کیا؟

۱۴۔ اس کے ساتھ کون کون سے اساتذہ گرامی؟

۱۵۔ دورہ دعوتِ شریعت کے وقت جہاں انشاء کے اساتذہ گرامی؟

نور و باد نصیحت کے لیے سیریل پرچہ جاننے کا حکم صادر فرما کر سنگڑاؤ فرمائیں۔

منہاج مودت سید وقار علی صاحب دین و دنیا حضرت مولانا سرور دینی سے تسلیت

۲۰۔ ۱۲۲۶ھ
آپ اپنی قرآنی میں درج شدہ منہاج مودت مولانا سرور دینی سے تسلیت
دکر جہاں دیکھا کہ دین و دنیا کے کسی آدمی کے استخراج کرادیں، جو عزیز فراموش جائیں ہوں کہ لکھنؤ
تکفیر دی جائے اور اس کی ایک نقل محفوظ کر لیں، سرور دینی سے سرور مولانا فضل الرحمن صاحب
کو بھی یہ چیزیں مطلوب ہیں کسی عزیز سے دار شخص کے حوالہ نہ کی جائیں، فقط
وہنا اعلان نہیں کیا۔ سلام سنوں

بزرگ و مولانا سرور دینی

مولانا سرور دینی نے درج بالا معلومات مدد کے لیے
شکر کر کے دیدہ جائیں۔ اس کی نقل محفوظ رکھی جائے۔

وقایع علی غور

بزرگ و مولانا سرور دینی



دفتر مظاہر علوم (وقف) سہارنپور (یوپی)

MADRASA MAZAHIR ULOOM (Waqf) SAHARANPUR 247001 (U.P.) INDIA Ph.0132-2653018

۲۰۵

۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ ۲۶ مئی ۱۹۰۵ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مکرم و محترم صاحب امتیاز ناظم صاحب زید مددکم (ناظم اعلیٰ مظاہر علوم وقف سہارنپور)
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تفصیلات مستفسرہ متعلقہ جناب حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب پسر مولوی محمد الحق صاحب ہمدانی درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت حمی السہبانی نے ۱۳۵۲ھ میں یہاں سے فراغت حاصل فرمائی۔

۲۔ دورہ حدیث شریف کے امتحان سالانہ کے حاصل کردہ نمبرات درج ذیل ہیں۔

بخاری شریف - مسلم شریف - ترمذی شریف - ابوداؤد شریف - نسائی شریف - طحاوی شریف	۲۱	۲۰	۱۵	۱۴	۱۹	۱۶
شمائل ترمذی شریف - حوطا نام محمد شریف - حوطا نام مالک شریف - ابن ماجہ شریف - کلی نمبرات ۱۷۵ ہیں۔	۲۱	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵

۳۔ لیسر سید پرستہ کا مکمل نمکس نہ آنے کے سبب الگ سے دیا جا رہا ہے۔

۴۔ دورہ حدیث شریف کے اساتذہ یہ ہیں۔ حضرت مولانا سید عبداللطیف صاحب پرنسپل صاحب - حضرت مولانا عبدالحق صاحب

کامل پوری - حضرت مولانا منظور احمد خاں صاحب سکس پرنسپل صاحب - حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی۔

۵۔ دورہ حدیث شریف آج دو سال پڑھا۔ پہلے سال ۱۳۵۵ھ میں بیمار ہو گئے تھے اس کے بعد کئی کتابوں کا امتحان نہ

دے سکے۔ اگلے سال ۱۳۵۶ھ میں دوبارہ داخلہ لیکر فراغت حاصل فرمائی، پہلے سال کے رفعا میں حضرت مولانا قاضی محمد الدین بلگرامی

(ہمدانی) - اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رسول پور (سہارنپور) قابل ذکر ہیں۔ اور دوسرے سال ۱۳۵۶ھ میں کل ۵۰ حضرات نے

سند فراغت حاصل فرمائی جن میں خواجہ محمد عظیم ترکستانی، مولانا حافظ محمد سلیمان سورتی اور مولانا عبدالحق صاحب البتوی قابل ذکر ہیں۔

یہ تحریر میرے انصاف و درمیانہ ہمت پر آئینہ مظاہر علوم

مولوی نامہ کے مواءم کردہ ہے۔ اس وقت کی اجازت ہے

قبل از اس وقت تحریر ہندو مفسر اور یہ نقطہ جو مفسر ۱۹۰۵ء

محمد الحسن بن
مسین نائب مہاجر مدنی
معین نائب مہاجر مدنی
۱۶

ناظم مولیٰ مدرسہ مظاہر علوم (وقف) سہارنپور





سند الفراع

۱۱۹۴

سند درجه اولی

من المدرسة العربية الشهيرة بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سمرقند

ﷺ

الحمد لله الواحد الا حد الصمد رفيع السماء بغير عمد الذي اكرم بمتصلات نعمائه وانعم بمتواليات آلائه . خلق الانسان على احسن تقويم وخلق عليه خلع الشريف والتكريم والصلاة والسلام على الفضل رسله وهادى سبله الذي جعل الصلوة عليه من اوضح بر اهلين الحسنات والسلام عليه من اهدى سبل الكمالات سيدنا ومولانا محمد سيد الاولين وسند الآخرين . وعلى آله واصحابه الهادين المهديين . وبعد فان اخانا في الدين الشيخ الفاضل الحافظ السيد ابرار الحق ابن المولوى السيد محمود الحق المنوطر سادة هردوني يوفى الهندي . قد دخل هذه المدرسة العربية الشهيرة بمظاهر علوم سمارقند في ١٠٢٤٩ هـ من الهجرة رهاها الله تعالى عن الآفات والشروخ في اوائل شهر شوال المكرم سنة تسع واربعين بعد الف وثلاث مائة (١٢٤٩ هـ) من الهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلوة والتحية . واقام فيها تسع سنين . قرأ على مدرستها الكتب المتداولة من العلوم المختلفة بالتدبر والا تفان فمن علم التفسير تفسير سورة البقرة من البيضاوي والجلالين والجزء الاول من المدارك ومن علم الحديث الصحاح الستة نعى بها الجامع الصحيح للإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري والجامع للترمذي مع كتاب الشمائل له والسنن لأبي داود والسنن للنسائي والسنن لابن ماجه والقرويني والاكثر من شرح معاني الآثار للطحاوي والموطأ للإمام مالك بن انس المدني الى كتاب الحج والموطأ للإمام محمد بن الحسن الشيباني ومشكوة المصابيح ومقدمة المشكوة وشرح نخبة الفكر ومن علم الفقه المجلدين الاولين من الهداية ومن شرح الوقاية وكنز الدقائق والمختصر للقدوري ونور الايضاح ومنية المصلى ومن علم اصول الفقه التوضيح مع التلويح ومسلم الثبوت ونور الانوار واصل الشاشي ومن علم الفرائض السراجية ومن علم البلاغة والمعاني مختصر المعاني وتلخيص المفتاح ومن علم الادب ديوان الحمامة والديوان للمنتبى ونفحة اليمن ومفيد الطالبين ومن علم العروض عروض المفتاح ومن علم النحو شرح الكافية للجامي والكافية وهداية النحو وشرح مائة عامل ونحوه ومن علم الصرف بنج گنج والفصول الاكبرية ودسور المبتدى وزلجاني ومن علم المنطق سلم العلوم والمير قطبي والقطبي وشرح التهذيب لليزدي والتهذيب والمراقبة وايساغوجي وقال اقول والكبرى وتيسير المنطق ومن علم الفلسفة شرح هداية الحكمة لعلامه صدر الدين الشيرازي المعروف بالصدرا والشمس البازغة والهدية السعيدية ومن علم الهيئة التصريح وشرح الجفمعي والسبع الشداد ومن علم الهندسة والحساب المقالة الاولى من تحرير اقليدس وخلاصة الحساب ومن علم المناظرة الرشيدية ومن كتب الفارسية انوار سهيلي ورقعات امان الله حسيني . فلما رحل مطايا السفر بعد ان ادرك من تحصيل مراده الوطرونال من تحصيل ما تفرغ رغبته فيه حظا وافيا وافر . طلب منا السند واستجازناوهو على ما نراه . بحمد الله تعالى . شاب صالح اهل للدرس والافادة فودعه ونحن عنه راضون وهو عاراض ونجيزه بما قرأه علينا او غيره وهو يسمع كما اجازنا مشائخنا الكرام على الشروط المعترضة عند علماء هذا الشأن ونعطي هذه الصحيفة الانيقة سنداً وهو السند للدرجة الاولى ونوصيه بتقوى الله تعالى في السرا والعلانية ويلزم السنة السنية واجتناب البدعة المضلة وان يشتغل بتعليم علوم الدين ويفيض على الطلبة بسجلهاوايشعل سر بالذكر والفكر في خلالها وان لا يعمل الى الدنيا ولذاتها وان لا يعرج على ابنائها مزخرفاتها وان لا يخاف في الله لومة لائم وان لا يتسانم صالح دعواته في خلواته وجلواته وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . وصلى الله تعالى على الفضل الرسل سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين .

كتب في ٢٢ ربيع الاول ١٣٢٩ هـ

امضاءات اركان والمدرسين

محمد امجد الله مدير المدرسة - محمد زكريا عفا عنه الكاندقوري - صديق احمد مدرس - بنده ظهير الدين
امير احمد كان الله له الكاندقوري - السيد الامير منظور احمد غفر له سمرقندوري - عبد المجيد نائب مدير المدرسة - ٢٢ ربيع ١٣٢٩ هـ

نقل مطابق اصله في تاريخ ١٣٢٩ هـ
ناظم وتولى مدرسة مظاهر علوم (وقف سمارقند)



مکتوب گرامی محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق حقی ہر دوئی
بنام حجتہ الاسلام حضرت مولانا شاہ محمد اسعد اللہ، ناظم مظاہر علوم وقف سہارنپور

خبر دی صوفی حیدرنا جا، زید مجاہد اس کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع کی جارہی ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری کا
۱۲ اگست ۱۹۶۳ء کو کراچی میں وصال ہو گیا۔ اس خبر سے دل و دماغ معطل ہیں
آج احقر پھولپور صوفی مرحوم و مغفور کے چھوٹے صاحبزادہ و صاحبزادوں کے پاس جا رہا ہے
آپ مرحوم کے لئے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لئے صبر کی توفیق کی درخواست ہے۔
یہ حبیب
ناکارہ ابرار الحق

مخدومی حضرت مولانا صاحب زید مجاہد السامی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع کی جارہی ہے کہ
حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری کا ۱۲ اگست ۱۹۶۳ء کو
کراچی میں وصال ہو گیا، اس خبر سے دل و دماغ معطل
ہیں آج احقر پھولپور حضرت مرحوم و مغفور کے چھوٹے
صاحبزادہ و صاحبزادوں کے پاس جا رہا ہے۔

آپ سے مرحوم کے لئے دعاء مغفرت اور ہم سب
پسماندگان کے لئے صبر کی توفیق کی درخواست ہے۔

والسلام

ناکارہ ابرار الحق

۲۶ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ ۱۷ اگست ۱۹۶۳ء

पोस्ट कार्ड
POST CARD
साथ का कार्ड जवाब के लिए
THE ANSWER CARD IS IN THE HAND OF THE ANSWER
केवल पता
ADDRESS ONLY



بخدمت شریف عالی جناب حضرت مولانا اسعد اللہ

مہتمم مظاہر علوم سہارنپور

Magaharunul Uloom

Saharanpur

U.P.


پتہ: بخدمت شریف عالی جناب حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مدظلہ العالی مہتمم مظاہر علوم سہارنپور

بنام..... فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین، ناظم مظاہر علوم سہارنپور

کرم و محترم زید مجید السامی
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 گرامی نام نے مشرف فرمایا جو اب معروض ہے کہ میں نے جس طالب علم کو تحریر دی تھی اس کو سمجھا دیا تھا کہ اگر داخلہ کھلے تو یہ تحریر دے دینا، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا
 تحریر دی تھی اسکو سمجھا دیا تھا کہ اگر داخلہ کھلے تو یہ تحریر دینا
 اور نہ نہیں اور کسی مدرسے میں داخلہ جانے کا یہ تحریر دینا
 انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اس لئے اس میں کہیں مدرسہ کا نام نہ لکھا
 سالہ سابق میں مدرسہ کا نام بھی تحریر کیا گیا ہے
 قریب کہ اس کے باوجود اخراج تحریر نہیں کر دی تھی بہت ہی کمزوری
 انکی اس کے بعد مولانا میر سیوطی اپنی سفارش والی لکھتے ہیں اب
 وفد کھلنے پر بھی میری طرف سے کوئی سفارش نہیں ہے
 حسب صلح معاملہ فرمایا جاوے گا
 نیز معروض ہے کہ مدرسہ کھلنے کے باوجود اگر حصلہ کی وجہ سے کسی کو داخلہ
 نہ ملے گا تو بھی کچھ حصہ نام نہ پڑے گا اس لئے کہ ان کے لئے نام نہ ملے گا
 ہوتا۔

SAHARANPUR
 May 2003
 TPT PIN

کرم و محترم زید مجید السامی
 ناظم مظاہر علوم سہارنپور



یہ ایسے سونے ہیں کہ آئینہ الگ الگ صورت ہو تو کسی ہندوستانی تحریر
 کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نامہ سفارش ختم نہیں کھلے گا
 اس میں جیسے آپ حضرت کی سفارش کا اتفاق فرمادے گا۔ والسلام

ناظم
 ابراہیم

۹ اگست ۱۹۸۰ء
 منظرہ اشوالہ

کرم و محترم زید مجید السامی
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی نام نے مشرف فرمایا، جو اب معروض ہے کہ میں نے جس طالب علم کو تحریر دی تھی اس کو سمجھا دیا تھا کہ اگر داخلہ کھلے تو یہ تحریر دے دینا، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا
 اسی لئے اس میں کسی مدرسہ کا نام نہ تھا، سال سابق میں مدرسہ کا نام بھی تحریر کیا گیا ہے۔ قریب ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے تحریر پیش کر دی جس سے بہت ہی افسوس ہوا،
 ان کی اس بے وفائی پر میں اپنی سفارش دیکھتا ہوں، اب داخلہ کھلے پر بھی میری طرف سے کوئی سفارش نہیں، حسب مصالح معاملہ فرمایا جاوے گا نیز معروض ہے کہ مدرسہ
 کھلے گا اور مصالحت کی وجہ سے کسی کو داخلہ نہ ملے گا تا تو بھی مجددہ تعالیٰ اس کا کارہ پاس کا کوئی اثر مناسب نہ ہوتا یا اس لئے معروض ہے کہ آئندہ اگر ایسی صورت ہو تو کسی
 معذرتی تحریر نہ دے گا، سفارش ختم نہیں کھلے گا۔ والسلام

ناظم مظاہر علوم سہارنپور
 پتہ: کرم و محترم جناب مولانا مفتی مظفر حسین صاحب زید مجید السامی ناظم مقام ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور
 مورخہ ۱۷ اشوالہ ۱۴۰۰ھ ۲۹ اگست ۱۹۸۰ء

بنام..... فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین، ناظم مظاہر علوم سہارنپور

مخدوم مکرم جناب مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم زید مجدہ السامی سہارنپور
 پتہ: مخدوم مکرم جناب مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم زید مجدہ السامی سہارنپور
 ناظم مجلس دعوت الحق ہر دوئی، فون نمبر ۱۳۳



No. 133

۷۸۶

مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے یہاں مدرسہ میں
 ملازمین کی تنخواہ کی تقسیم کا کیا معمول ہے؟ آیا رویت کے حساب
 دی جاتی ہے مثلاً اگر چاند ۲۹ کا ہوا تو اس حساب سے اور اگر ۳۰ کا
 ہوا تو اس حساب سے یا ہمیشہ ۳ ہی کے حساب سے دی جاتی ہے،
 چاہے رویت ۲۹ کی ہی کیوں نہ ہو بہر حال جو بھی اصول جاری ہو
 اس سے مطلع فرمائیے، ممنون ہوں گا۔

ناکارہ خادم ابرار الحق

ناظم مجلس دعوت الحق ہر دوئی، فون نمبر ۱۳۳

پوسٹ کارڈ


POST CARD
 THE ADDRESS CARD IS INTENDED FOR THE ADDRESS ONLY



مخدوم مکرم جناب مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم
 Madarsa
 Magaharutritun
 Saharanpur

پتہ: مخدوم مکرم جناب مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم زید مجدہ السامی سہارنپور

نام جانشین ائینہ الامام احمد بن حنبلہ صاحب مدظلہ، ناظم مظاہر علوم (وقت) سہارنپور
باسمہ تعالیٰ



مکرم و محترم جناب منہم صاحب زید لطف مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

① آپ کے مدرسہ میں طلباء کرام کیلئے موسم سرما میں گرم پانی کا نظام
رہا ہے یا نہیں؟

② مسجد میں مصلیان کرام کیلئے گرم پانی کا نظام رہا ہے یا نہیں؟

③ مدرسہ میں کتنے حلقہ ہیں اور کتنے طلباء ان میں رہتے ہیں۔

④ مدرسہ میں کتنے جزیرے ہیں اور کس کس طاقت کے ہیں؟

⑤ مدرسہ کی برقی ضروریات ان سے پوری ہو جاتی ہیں یا نہیں؟

جواب کیلئے ضرور ڈالنا ہے۔
والسلام

۲۲ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ مطابق ۲۲ مئی ۲۰۰۵ء

مکرم و محترم جناب منہم صاحب زید لطف مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اسرار الحق

(۱) آپ کے مدرسہ میں طلباء کرام کے لئے موسم سرما میں گرم پانی کا نظام رہتا ہے یا نہیں؟

(۲) مسجد میں مصلیان کرام کے لئے گرم پانی کا نظام رہتا یا نہیں؟ (۳) مدرسہ میں کتنے حلقہ ہیں اور کس قدر طلباء ان میں رہتے ہیں؟

(۴) مدرسہ میں کتنے جزیرے ہیں اور کس کس طاقت کے ہیں؟ (۵) مدرسہ کی برقی ضروریات ان سے پوری ہو جاتی ہیں یا نہیں؟

جواب کے لئے رشتہ ذرا تفصیل سے۔ والسلام ابرار الحق

قائم شدہ ۱۳۰۲ھ مطابق ۱۹۱۹ء

۵۸۹

کراچی "عقۃ الحق ہر دوئی"
Phone. 135

مجلس دعوت الحق ہر دوئی یوپی (ایڑیا)

PIN 241001

MATLIS DAWATULHAQ HARDDOI U.P. (INDIA)

جہاں ۱۳۷۳

۱۹۵۷ء

۱۳۹ھ مطابق

خطاب غرض و مقاصد

۱. اجراء و احقاق مکتات
۲. تدریس کے صحیح کلام پاک و طریقہ تفسیر کے ذریعہ اسلام کو جاننے والوں کو باطن و ظہر سے
۳. تعلیم کا نظام
۴. احکامات طہر و تکلیف کنندگان بحدوث اللہ تعالیٰ و اقوام کیلئے درجہ اولیٰ و ثانی اور
۵. دن و رات
۶. تبلیغ درجہ اولیٰ و ثانی و عطا و نصاع
۷. عطا کے خواہشمند حضرات کے لئے
۸. ضروری انتظام کرنا
۹. دینی تشیلات و احکام اسلام کی اشاعت کرنا
۱۰. دینی احکام اور اصلاحی و دینی امور میں تعلیم و ترویج کے ذریعہ قانونی و دینی امور میں اصلاح و ترقی
۱۱. دینی و فلاحی اشاعت
۱۲. مکتات کی اصلاح اور دینی احکام کی اشاعت
۱۳. دینی و فلاحی اشاعت
۱۴. دینی و فلاحی اشاعت
۱۵. دینی و فلاحی اشاعت
۱۶. دینی و فلاحی اشاعت
۱۷. دینی و فلاحی اشاعت
۱۸. دینی و فلاحی اشاعت
۱۹. دینی و فلاحی اشاعت
۲۰. دینی و فلاحی اشاعت

ناظم مجلس دعوت الحق ہر دوئی
۱۸
۶۷

خلفاء و مجازین

مولانا محمد عارف مظاہری، آپریٹر آئینہ مظاہر علوم سہارنپور

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و مجازین دو طرح کے تھے۔ (۱) مجازین بیعت (۲) مجازین محبت۔ مجازین بیعت کی تعداد ۱۰۳ ہے اور مجازین محبت ۳۶ ہیں۔
مجازین بیعت ہندستان میں ۶۰ پاکستان میں ۶، انگلینڈ میں ۱، امریکہ میں ۱، افریقہ میں ۳، سعودی عرب میں ۵، اور بنگلہ دیش میں ۲۷ ہیں۔

چند شخصیات کے اسمائے گرامی

ہردوئی	☆ حضرت مولانا بشارت علی صاحب
کراچی	☆ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب
علی گڑھ	☆ جناب حکیم کلیم اللہ صاحب
ہردوئی	☆ جناب مولانا افضال الرحمن صاحب
انگلینڈ	☆ حضرت مولانا ایوب صاحب
افریقہ	☆ حضرت مولانا یحییٰ بھام صاحب
ڈھانچی	☆ حضرت مولانا سلیمان صاحب
افریقہ	☆ جناب عبدالحق صاحب ڈیپائی
بنگلہ دیش	☆ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب
جدہ	☆ جناب مولانا عبدالرحمن صاحب حیدر آبادی
ہردوئی	☆ جناب مفتی عبید الرحمن صاحب کرناٹکی
کرناٹک	☆ جناب حاجی عبدالرحمن صاحب انجینئر
اعظم گڑھ	☆ جناب مفتی محمد عبداللہ صاحب مظاہری پھولپوری
تاراپور	☆ جناب مولانا عبدالاحد صاحب
سیتامڑھی	☆ جناب مولانا عبدالمنان صاحب قاسمی

- ☆ جناب مولانا عبد القوی باقوی صاحب
☆ جناب انوار الحق صاحب
☆ جناب اعجاز صاحب حیدر آبادی
☆ جناب منصور علی خان صاحب
☆ جناب خلیق اللہ صاحب
☆ جناب مولانا محمد مظہر صاحب
☆ جناب مولانا محمد شعیب صاحب
☆ جناب مولانا محمد یعقوب اشرف صاحب
☆ جناب مولانا شیر علی صاحب
☆ جناب مولانا قمر الدین صاحب
☆ جناب قاری ابوالحسن اعظمی
☆ جناب مفتی محمد ارشد صاحب
☆ جناب مولانا مفضل الرحمن صاحب
☆ شاعر اسلام جناب محمد کامل صاحب
☆ جناب مولانا فیض الحسن صاحب (مجاز صحبت)
☆ جناب مولانا محمد زکریا صاحب کیرانوی
☆ جناب مولانا محمد قاسم صاحب
☆ جناب مولانا اظہر کریم صاحب
☆ جناب مولانا انعام صاحب
☆ جناب مفتی سعید الرحمن صاحب
☆ جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب
☆ جناب اسماعیل صاحب بورہ (مجاز صحبت)
☆ جناب صدیق احمد صاحب (مجاز صحبت)
☆ جناب علیم الحق صاحب

حیدر آباد
جدہ
مدینہ طیبہ
مدینہ طیبہ
مکہ مکرمہ
کراچی
ہردوئی
راندر
ترکمر
دیوبند
دیوبند
جلال آباد
ہردوئی
الہ آباد
ہردوئی
سہارنپور
کنک
کنک
ایٹہ
ممبئی
ممبئی
ممبئی
ممبئی
علی گڑھ

اور بھی دیگر خلفاء و مجازین ہیں جن کا ذکر طوالت کے پیش نظر ترک کیا جا رہا ہے۔

آئینہ مظاہر علوم کی شاندار پیشکش

فقیہ الاسلام نمبر

RS.100

ولی کامل محدث دوراں فقیہ الاسلام حضرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین نور اللہ مرقدہ کی علمی و عرفانی خدمات اور دینی و روحانی اوصاف و کمالات کا حسین و دلآویز مجموعہ

اس شمارہ کو ملک کی ممتاز علمی دینی اور روحانی شخصیات کے مقالات، بلند پایہ قلم کاروں کے مضامین، مشہور و معروف شعرائے کرام کے منظوم کلام اور تعزیتی مکتوبات سے آراستہ کیا گیا ہے۔

۲۸۰ صفحات پر مشتمل یہ گرانقدر مجموعہ حضرت فقیہ الاسلام کے مریدین و متوسلین، معتقدین و متنبین،

مجازین و متعلقین اور ہمدردان مظاہر علوم وقف سہارنپور کے لئے بیش قیمت تحفہ ہے۔

۴ رنگوں پر مشتمل حسین و جمیل ٹائٹل، سفید اور معیاری کاغذ، عمدہ طباعت اور خوبصورت کتابت سے

مزین یہ شمارہ صرف سو روپے میں دستیاب ہے، باذوق قارئین ڈاک سے بھی منگوا سکتے ہیں، ڈاک کا صرفہ بذمہ خریدار ہوگا۔

ملنے کا پتہ

دفتر آئینہ مظاہر علوم وقف سہارنپور - ۲۴، یو پی

جامعہ عربیہ

تعلیم القرآن ناهل

ایک طویل عرصہ سے مقامی و بیرونی کثیر طلباء کی تعلیمی خدمات، اسلامی اصولوں کے پیش نظر تربیت، علوم اسلامیہ کی اشاعت، تبلیغ دین کے فرائض بالخصوص فنِ ترتیل و تجوید کی خدمات بحمد اللہ انجام دے رہا ہے۔

اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ ہذا ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد اور علوم و فنون کے نظام میں ترقیات کے پیش نظر ایک قطعہ آراضی تیرہ لاکھ روپے میں خرید لیا گیا ہے جس میں دس لاکھ روپے کی ادائیگی باقی ہے، زندہ دل برادران اسلام سے مخلصانہ درخواست کی جاتی ہے کہ جامعہ ہذا کی مذکورہ ضروریات کی تکمیل کیلئے دے، درمے، قدمے، سخنے تعاون فرمائیں جو صدقہ جاریہ بھی ہے اور بخشش کا ذریعہ بھی۔

ترسیل ذر کا پتہ

مولانا عبدالباطن ندوی جامعہ عربیہ تعلیم القرآن

موضع ناهل، ضلع غازی آباد، یوپی

فون نمبر

0120-2678894, 987141039

9810750051

080855/40/49/DL/U-88

خدمت دین میں مشغول
علاقہ امر وہہ و مراد آباد کا مشہور ادارہ

جامعہ اسلامیہ معارف القرآن



آپ کے گراں قدر تعاون کا محتاج ہے۔

۱۱ رجب المرجب ۱۴۵۵ھ مطابق ۳ اپریل ۱۹۸۵ء

شیخ طریقت حضرت الحاج محمد بن قاسم حسینی عرف میاں جی

مولانا جلیل احمد سیوہاروی سابق صدر جمعیت علماء یوپی

قاری فضل الرحمن ناظم جامع مسجد امر وہہ

تأسیس

مؤسسين

دفتر ترقی

جامعہ معارف القرآن اللہ کے فضل سے اپنے روز قیام ہی سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اس کا آغاز ۱۵ طلبہ اور ایک مدرس (قاری محمد سلیمان ناظم مدرسہ) سے ہوا تھا۔ آج ۲۰ سال کی قلیل مدت میں مدرسہ کا عملہ ۲۵ مدرسین و ملازمین پر مشتمل ہے طلباء کی تعداد ۶۰۰ ہے سالانہ خرچ چندرہ لاکھ (1500000) روپے سے زائد ہے۔

شعبہ جات

(۱) عربی و فارسی (۲) شعبہ تحفیظ القرآن (۳) میں ۱۲۵ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں (۳) شعبہ تجوید

(۴) شعبہ ناظرہ قرآن کریم (۵) شعبہ پرائمری (۶) شعبہ سلاکی کڑھائی سینئر برائے طالبات

نوٹ:- اس وقت مدرسہ میں خصوصی تعمیرات کی ضرورت ہے اہل خیر حضرات توجہ فرمائیں۔

اپیل کنندہ

(حافظ) محمد سلیمان (صاحب) ناظم جامعہ ہذا

وارا کین مدرسہ معارف القرآن اوچھاری ضلع جے پی نگر

فون 05924-245054

AAINA-E-MAZAHIRULOOM MONTHLY

MAZAHIRULOOM WAQF SAHARANPUR (U.P.) INDIA

PH. 0132-2653018